

آسان عملیات کی بہترین کتاب

0092 3444495555



مرتبہ

ولید علی خان

قافی و غار

گرگ اینڈ کمپنی کھار کا باولی دہلی

(ہندوستان یقویہ پریس)

03444495555

اس عمل کے لئے وقت کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ اس امر کی پابندی ضروری ہے کہ جس وقت اپنی تجارت پر بیٹھے ضرور پڑھ لیا کرے۔ جب تک اس عمل پر کاربند رہے گا۔ اتنا فائدہ اس وقت تک فائدہ اٹھائے گا۔ اور روز بروز ترقی ہوتی رہے گی۔ دولت کافی جمع ہوتی رہے گی۔

یہ آسان ہونے کے باوجود بہت سے فائدوں کا بھی مالک ہے۔ اور یہ ایک خاص بزرگ کا عطیہ ہے۔ آج کی پریشانیوں اور بے روزگاری کی زیادتی کو محسوس کرتے ہوئے اس وظیفہ کو کتاب بندہ میں درج کیا گیا۔ تاکہ عوام اس سے فائدہ حاصل کر کے مجھ نیکر کو دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔



MD SHAHAB

دولت کمانے کیلئے عمل

اگر کوئی شخص غریب ہو اور اس کی خواہش ہو کہ وہ امیر ہو جائے تو اس کو سہمت سے کام لینا چاہئے۔ اور حوصلے بلند رکھنے چاہئیں۔ ہمت کرے ان ان کو کیا ہو نہیں سکتا۔

عامل کو چاہئے کسی قسم کی تجارت شروع کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس عمل مبارک کو بھی شروع کرے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ غیر دہرکت اور کثیر فائدہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس عمل کے طفیل ہی ہوگا۔ لیکن عوام یہ سمجھیں گے کہ تجارت سے فائدہ ہو رہا ہے اس طرح اس عمل کے ذریعہ بیت حلیہ مالدار بن سکتا ہے۔ عمل مبارک یہ ہے۔

أَعْطَيْتُ غَنِيًّا يَا مَوْلَا يَا مَوْلَا أَعْطَيْتُ غَنِيًّا
تجارت شروع کرنے سے قبل ۷۷۷ مرچہ اس عمل کو پڑھا کرے اور اس کے بعد اپنی تجارت کا کام شروع کر دیا جائے۔

فائدہ حاصل کرنے کیلئے عمل

اگر کوئی تجارت کرتا ہو۔ اور جو اشیاء اس کے پاس موجود ہوں بد قسمتی سے ان کے نزع لٹے گرجائیں کہ دیوالیہ بن جانے کا امکان ہو۔ تو ایسی صورت میں بھی پریشان نہ ہوں اور نہ اپنے اشیاء کو سستے نزع پر فروخت کریں۔ بلکہ خدا پر پورا پورا بھروسہ رکھیں اور اس عمل کو شروع کر دیں۔ خداوند تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے ان اشیاء کی مالک آئے گی۔ اور نزع بھی خلاف توقع بہت بڑھ جائیگا۔ فوراً ان اشیاء کو فروخت کر دیں اور ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں عمل مبارک یہ ہے۔

الظرفی یا رحیم ویا کریم یا غفور یا سخی۔

یہ چالیس روز تک بوقت نصف شب گزر جانے ایک ہزار ایک سو مرتبہ بلا تاثر پڑھے۔ اور دھیان اپنے مطلب پر ہی رہے کسی اور طرف دھیان منتشر نہ ہونے پائے۔ پوری مدت گزرنے بھی نہ پائے گی کہ آپ کی مراد دلی بر آئے گی

غیب سے ان اشیاء کی مالک آئے گی۔ جو آپ کے پاس کافی تعداد میں موجود ہے۔ اور نزع بھی اتنا اونچا ہوگا کہ آپ حیران و ششدر رہ جائیں۔ وقت ضرورت کام میں لا کر تجربہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔

نقش برائے آسیب

اگر کسی کو مرضِ آسیب ہو اور فائدہ نہ ہوتا ہو تو اس نقش کو آسیب زدہ کے گلے میں باندھے اور ایک نقش ہر روز لکھے اور پانی میں گھول کر اس کو پلا دیا کرے بیس روز تک اسی

جیوش	حموش	قیوس
طموش	ابرچنا	برچنا
میون زنگی	میون حبشی	بحق حضرت سلیمان

طرح سے کرے۔ انشاء اللہ مرضِ آسیب کا دور ہو جائے گا۔ وہ نقش یہ ہے !

امتحان میں کامیابی کیلئے عمل

حکایت رکھ کہ ایک لڑکا دسویں جماعت کے امتحان میں نین مرتبہ فیصل ہو گیا۔ اس کے والدین بہت غریب اور تنگ دست تھے۔ نہ جانے کس کس سے قرض مانگ کر اس کا خرچ پورا کرتے تھے اس لڑکے کو فیصل ہو جانے کا از حد ملال ہوا لڑکے کے والدین نے بھی لڑکے کو سخت سست کہا۔

طالب علم غریب ہونے کے باوجود بہت عینت مند تھا۔ اس نے اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی کو ضرور ختم کر دے گا۔ گرمی کے دن تھے۔ ایک روز اس نے جیب کو وہ اپنے کمرے میں تنہا لیٹا ہوا تھا۔ بگڑی کا کھنپدا بنا کر اپنی گردن میں ڈال کر پوری طاقت سے کھینچا۔ اس نے قسم کھالی تھی کہ جب تک اپنی زندگی کو ختم نہ کر دوں گا چین نہ پاؤں گا۔ چنانچہ گردن پر برابر طاقت

آزمائی کرتا رہا۔ قدرت کو زندہ رکھنا تھا اس لئے یہ نہ مر سکا۔ بلکہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کے دوران میں اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی اس سے کہہ رہی ہے کہ خبردار نادان یہ کیا حرکت ہے۔ ذرا سی بات پر زندگی ختم کرتا ہے۔ ہرگز ایسا مت کر بلکہ تو جتنا پڑھنا چاہتا ہے پڑھنا ہی نہ ہوگا۔ یاد رکھ ہر روز چار سو چالیس مرتبہ لفظ الحمد للہ پڑھا کر جب تک تیرے امتحان کا نتیجہ برآمد نہ ہو جائے اس وقت تک برابر اس عمل کو جاری رکھ۔

ہوش میں آنے کے بعد لڑکے نے اپنی حالت کو سمجھا اور ایک دفعہ پھر پڑھنے کے لئے اپنے والدین سے استدعا کی۔ اور والدین نے اس کی بات کو مان لیا۔ لیکن والدین نے یہ شرط رکھی کہ اگر اس مرتبہ بھی کامیاب نہ ہوا تو یہ اپنی شکل ان کو ہرگز نہ دکھائے۔ لڑکے نے اس شرط کو قبول کر لیا۔

لڑکے کو اس مرتبہ اپنی کامیابی کا پورا پورا یقین تھا اور یہ جانتا تھا کہ اس اسم مبارک کے ذریعہ یقینی کامیاب ہو جائے گا۔

چنانچہ وہ ہر شب کو ۴۴۴ مرتبہ اس اسم مبارک کو الحمد للہ پڑھ لیا کرتا۔ اور اپنی کامیابی کے لئے دعا مانگا کرتا۔

اس نے اپنے دوسرے کمزور ساتھیوں کو بھی یہ عمل بتا دیا تھا۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس مرتبہ بہت ہوشیار ملوثیاء روٹے نیل ہو گئے۔ اور یہ تمام جو اس عمل کو پڑھا کرتے تھے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے۔

جینبیبیبیب

لاٹری میں کامیابی کے لئے

حکایت ہے کہ ایک شخص کو لاٹری ڈالنے کا بہت شوق تھا۔ اس سے قبل جیک اس کھیل میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ اس کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ اور اپنی گزر اوقات بہت اچھی طرح

کرتا تھا۔ لیکن اس شوق نے یعنی لاٹری نے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور وہ بہت غریب اور کنگال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں جب یہ نیا انقلاب دیکھا تو اس نے خود کشتی کا ارادہ کر لیا۔ اور جان دینے کی خاطر یہ طریقہ نکالا کہ وہ ریلوے لائن پر رات کے وقت گاڑی گزرنے سے پہلے اپنی گردن رکھ کر لیٹ گیا۔ تاکہ ریل گاڑی اس لائن سے گزرے اور اس کی گردن کو تن سے جدا کرتی چلی جائے۔

در اصل خود کشتی کی خاموشی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قدر مقروض ہو چکا تھا کہ اپنی شکل دکھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ اور ہر وقت دل پر خوف و حراس چھایا رہتا تھا۔ اور اپنا آپ کو ہر کسی سے چھپائے رہتا تھا کہ کہیں کوئی قرضدار اس کی گردن نہ داب لے۔

ریل گاڑی کی آمد میں ابھی چند منٹ باقی تھے کہ اچانک اس کی ٹانگ پکڑ کر کسی نے کھینچا اور یہ لائن سے تین گز کے فاصلے پر آگیا۔ ریل گاڑی لائن سے گزر گئی اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تو دکھائی دیا کہ ایک سفید پوش بزرگ ہیں اور وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بچہ اگر تو دنیا میں خوش حال رہنا اور قرضہ سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ عمل ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ ہر روز رات کو سونے سے قبل پڑھ کر سو جایا کر انشاء اللہ سب قرض ادا ہو جائے۔

اور اپنی زندگی خوشحالی سے گزارے گا۔

ان بزرگ ہستی کے سمجھانے سے اس کی سمجھ میں آگیا۔ اور اس نے خود کشتی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور سفید پوش بزرگ کے قدموں پر گر گیا۔ اور رو کر کہا اے بزرگ ہستی اب مجھے وہ عمل بتائیے جس کا طریقہ بتایا ہے۔ اور آپ نے میری زندگی مجھے واپس کرائی ہے۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ مجھے خدمت کا موقع دیجئے۔

بزرگ نے جواب دیا۔ بچہ تو روزہ نماز کا پابند ہو جا۔ اور شرع محمدی پر پورے طریقہ پر پیرا ہو جا۔ بس یہی ہماری خدمت ہے اور یاد کر لے وہ عمل یہ ہے۔

يَا حَنِيمُ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ يَا حَنِيمُ
اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

چنانچہ وہ شخص اس آیت کو ہر روز پاک صاف رہ کر با دھنوں کو پڑھنے لگا۔ اور پہلی ہی مرتبہ اس کی لاٹری نکل آئی۔ جس کے ذریعہ اس نے حساب تمام قرضداروں کا چکیتہ کر دیا۔ دوسری مرتبہ پھر لاٹری نکل آئی۔ اس مرتبہ اس نے اپنی حالت کو سمجھا لیا۔ اور وہ کافی مالدار اور متمول شخص بن گیا۔ عمل مذکورہ بالا کی برکت سے ابھی ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ اس کی حالت نے ایسا سمجھا لیا کہ یہ شخص یا تو چھپا چھپا پھرتا تھا کہ کہیں کوئی

تزمین خواہ اس کی گردن نہ بکڑے اور دل میں ہر وقت خوف و ہراس رہتا تھا لیکن اب اس کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ بستیا میں سب سے زیادہ متمول اور عزت دار شخص اگر تھا تو یہ تھا۔ تمام بستیا والے اس کے حالات سے حیران اور ششدر تھے کہ آخر یہ کیا ہوا۔

رہس میں کامیابی کے لئے تمویز

حکایت ہے ایک شخص جس کی شروع کی زندگی بالکل گنہاں میں گزری اور وہ ایک معمولی انسان کی طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ ایک بمبئی کا سیٹھ لکھتی بن گیا۔ لوگوں کو بہت جبرت اس بات پر لگتی کہ وہ ہر رہس میں کامیاب رہتا تھا۔

رہس گھوڑوں کی بھاگ کو کہتے ہیں اور جب بھاگ ہوتی ہے تو بھاگنے والے گھوڑوں کے ٹکڑے بکتے ہیں اور اس بات کی شرط ہے کہ جس گھوڑے کا

آپ ٹکٹ خریدیں گے اگر وہ گھوڑا سب گھوڑوں سے تیز بھاگا تو جتنے روپیوں
کا ٹکٹ خرید اگیلے اس کا دس گنا یا بیس گنا روپیہ ملے گا اور اگر وہ گھوڑا
پچھے رہ گیا تو وہ روپیہ جس کا آپ نے ٹکٹ خریدا ہے وہ روپیہ ختم ہو جائے
گا۔

مذکورہ بالا شخص جس گھوڑے کا ٹکٹ خریدا تھا وہ لفظی اول آجاتا یعنی
سب گھوڑوں سے آگے رہتا۔

لوگوں کو یہ دیکھ کر کہ اس کا خیال کبھی غلط نہیں ہونا از حد حیرت ہوتی
اس کا ایک خاص دوست بھی تھا جو بہت تنگ دست تھا۔ اس سے قبل یہ دونوں
ایک ہی طرح سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ
کیا راز ہے۔ اس نے اول تو انکار کیا۔ لیکن یہ دونوں بچپن کے ساتھی تھے اس
لئے زیادہ زور دینے پر ایک روز رات کو جبکہ وہ بہت خوش تھا اپنے عزیز دست
کو یہ راز اس طرح بتانا شروع کیا کہ۔

میں ایک کوڑھی فقیر کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ کوڑھی فقیر جب
مرنے لگا تو اس نے بتایا کہ بچے صبح کی نماز کے بعد اگر تو یہ آیت مبارکہ پڑھ لیا کرے
تو اس آیت کے پڑھنے سے ہر ایک کام کامیابی کے درجے تک لفظی پہنچے گا۔ اور تیری
تمام پریشانیوں بہ آسانی بہت جلد دور ہو جائیں گی۔ اور اپنی زندگی عیش و
مسرّت سے گزارے گا۔

چنانچہ اس کے مرنے کے بعد میں نے اس کے بندے ہوئے وظیفہ کو آج تک
پڑھا ہوں اور جب تک میں زندہ رہوں گا اس وظیفہ کو ہرگز ہرگز ترک نہ
کروں گا کیوں کہ یہی وظیفہ میری خوشنحالی کا باعث ہوا ہے اور تم سے بھی
پر زور اپیل کروں گا کہ اس وظیفہ کو ہر روز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو۔
انشاء اللہ تم بھی میری طرح خوشنحالی سے زندگی گزارو گے۔ اور وہ وظیفہ
یہ ہے۔

وَنَزَّلْنَا مِّن تَشَاءٍ وَمِمِّن تَشَاءٍ

چنانچہ اس کا غریب دوست یہ سن کر بہت مسرور ہوا اور اس نے
بھی اس وظیفہ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ دونوں دوست بڑی خوشنحالی
سے اپنی اپنی زندگیاں گزارنے لگے۔ اور ان کے پاس ضرورت سے زیادہ
دولت جمع ہو گئی۔



مریض کی صحت کیلئے وظیفہ

حکایت ایک سوداگر کی بیوی سخت بیمار ہو گئی ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ابھی سوداگر کی نشاندہی کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا اور نہ ہی کوئی اولاد پیدا ہوئی تھی کہ اچانک اس کی بیوی مہلک مرض میں مبتلا ہو گئی۔ ابتدا میں تو تشخیص صحیح نہ ہو سکی لیکن بعد میں جب سوداگر نے حکیم ڈاکٹروں میں ہزاروں روپیہ صرف کر دیا تب پتہ چلا کہ بہت مہلک مرض ہے (یعنی دقا و سل) اور اس مرض سے جان بری ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔

سوداگر کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اب زندہ نہ رہ سکے گی تو سوداگر دیوانہ سا ہو گیا۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا کیونکہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی بیوی چند ہی روز کی مہمان ہے اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بچہ سے روپوش ہو جائے گی۔

اب دن یہ سوداگر دیوانہ وار جنگل کی جانب سے گزر رہا تھا۔ اور اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ شہری زندگی نہیں گزائے

وہ کوہ بیاباں کی خاک اڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کو ایک فقیر دکھائی دیا اور سوداگر کو اپنے قریب بلا کر کہا۔

”جا بابا جا۔ خدا تیرے حال پر رحم ڈرائے گا۔ میں جو کچھ تجھے بتاؤں تو اس پر عمل کر۔“

سوداگر نے کہا۔ بابا بتائیے۔ حلیہ بتائیے۔ میں جان سے جان سے جا رہا ہوں اللہ دیر نہ کیجئے۔ تب فقیر نے کہا۔

نیم کے سات تپے لے اور ہر پتہ پر کالی سپاہی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لے اور ہر روز صبح اپنی بیوی کو یہ ساتوں تپے کھلا دیا کر اوپر سے بسم اللہ شریف کا دم کیا سو پانی پلایا کر۔ حد لے چاہا تو وہ ضرور محتیا ب ہو جائے گی۔

چنانچہ وہ سوداگر اسی وقت واپس اپنے گھر آیا اور اس بچہ کے تپے ہوئے طریقہ پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے سوداگر کی بیوی کو نمایاں فرق نظر آنے لگا۔ اس کی صحت بحال ہوتی چلی جا رہی تھی۔

ابھی ایک سال اس عمل کو کرتے ہوئے نہ گزرا تھا کہ اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ نہ کھانسی رہی اور نہ بخار۔ نہ ہی کسی قسم کی کمزوری باقی رہی۔ بھوک خوب لگتی اور کھانا صحیح ہضم ہونے لگا۔

جسم میں خون دکھائی دیتے لگا۔ اس طرح اس کی بیوی کی دوبارہ زندگی
واپس ہوئی۔



روشن ضمیر کیلئے عمل

جو شخص اس بات کا طالب ہو کہ یہ روشنی ضمیر بن جائے۔ یعنی ہر آئندہ
ہونے والی بات کا اس کو پہلے ہی علم ہو جایا کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں
ہے۔ انسان اگر بہت سے کام لے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہذا اس بات
کے شوقین نامید نہ ہوں۔ نیچے لکھے اسم اعظم کو کام میں لائیں۔ انشاء اللہ
تعالیٰ یقینی کامیابی حاصل ہوگی اسم اعظم یہ ہے۔
" وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصّٰوَابِ "

جس وقت سونے کا ارادہ کیا جائے تو با وضو ہو کر ایک ہزار ایک مرتبہ

اس اسم اعظم کو پڑھ کر سو جانا چاہئے۔ اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری
ہے کہ اس اسم اعظم کے پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہ کریں اور سو جایا کریں
انشاء اللہ تعالیٰ یقینی کامیابی حاصل ہوگی۔



غیب سے روزی ملنے کیلئے تعویذ

اگر کوئی شخص بہت مفلس اور نادار ہے اور اگر کوئی روزگار بھی نہیں ہے
ہزاروں تدابیر کہیں ہوں اور کاروبار کر کے دیکھے ہوں مگر کسی میں بھی فائدہ
نہ ہو اس وجہ سے سبب زندگی ایک وبال بن گئی ہو تو یہ نقش جو ذیل میں
درج ہے۔ کام میں لائیں۔ اور اس مصیبت سے نجات حاصل کریں اس
کے استعمال سے نجات حاصل کریں۔ اس کے استعمال سے انشاء اللہ
تعالیٰ مفلسی دور ہو جائے گی۔ اور غیب سے امداد ہوگی۔ نقش یہ ہے

۷۸۶

۲۱۵	۲۱۷	۳۲۹	۴۶۵
۷۸۶	۹۴۰	۵۴۰	۷۷۱
۳۱۲	۹۸۱	۷۹۵	۱۰۰
۵۰۰	۷۲۱	۳۱۱	۱۰۲

طریقہ اس کا یہ ہے کہ نقش چاندرات سے لکھنا شروع کرے اور
چودھویں رات تک برابر روزانہ لکھے اور ان کی تعداد روزانہ سپدرہ
ہو۔

سپدرہ تعویذ روزانہ کے حساب سے چودھویں تک تعداد میں ۲۱۰
ہوں گے اس کے بعد روزانہ ان کو یعنی سپدرہ تعویذ ہر روز کسی کھیت
میں دفن کر آیا کرے۔ جب یہ تمام نقش دفن دیئے جائیں گے تب ایک
پیر بزرگ اس کے پاس آئیں گے اور ایک روپیہ چار آنے دیکر واپس
ہوں گے۔

اس طرح ہر روز بلاناغہ ایک روپیہ چار آنے یہ بزرگ دے
جایا کریں گے۔

مگر واضح رہے کہ مبلغ چار آنے ہر روز فیروزوں کو خیرات کر دیا
کرے۔ اور مبلغ ایک روپیہ اپنے صرفہ میں لائے اور نہ ہی اس نقش
کو کسی کو بتائے۔ اور جو نقش اسے ملتا ہے اسے جمع نہ کرے گا۔ اپنے
صرفہ میں ہر روز صرفت کر دینا ضروری ہے۔ ورنہ بصورت دیگر یہ سب کچھ
امداد مند ہو جائے گی۔ اور عامل کی حالت بدستور پہلی جیسی ہو
جائے گی۔

سس

بگڑی بات بنانے کیلئے عمل

اگر کسی شخص کی بات یا کام بگڑ جائے تو اس کو حوصلہ اور سمجھت
نہ ہارنا چاہیے۔ اور اپنے حوصلے اور سمجھت کو بلند رکھنا چاہیے۔ قطعی
مالوس نہ ہوں اور ایسی حالت میں ضرور اس عمل کو کام میں لانا چاہئے
معمولی سے کام کے لئے اس عمل کو کام میں نہ لائیں۔ بلکہ کسی خاص
موقع پر اس سے کام لیں۔ انشاء اللہ یعنی کامیابی ہوگی۔ اور وہ
عمل مبارک یہ ہے۔

”اَلْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ اِلَّا بِاللّٰهِ“

اپنے مقصد اور اپنی آرزو کو اپنے دل میں جگہ دے کر اس عمل
کو دوپہر کے وقت گوشہ تنہائی میں جا کر پڑھنا شروع کرے ہر
روز ۷۷ کی تعداد پوری کرو۔ اور مسلسل ۲۷ دن تک اس عمل کو
پڑھتے رہو۔ ۲۷ روز کے اندر ہی مقصد دلی برآتا ہے۔

مقدر لوگوں نے اسے آزمایا ہے خدا کے حکم سے کامیاب پایا

تب اس کو اس کتاب میں درج کیا۔ تاکہ ہر ضرورت مند اس سے فیض اٹھائیں اور محب فقیر کو دعائے جبر میں یاد کریں۔

مال دار بننے کے لئے

یوں تو دنیا میں بہت لوگ ایسے عزیز ہوتے ہیں جن کو صحیح وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا۔ اور بہت سی نکالین اٹھاتے اٹھاتے وہ تکلیفوں کے عادی بن چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسی میں خوش رہتے ہیں یوں کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ لوگ لپٹ بہت ہیں۔ انسان اگر اعلیٰ ہمت ہو تو قدرت اس کا ساتھ دیتی ہے اور جو اس کا منشا ہوتا ہے اس کو قدرت پورا کر دیتی ہے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو بہت ہرگز نہ ہارے اور جو کچھ اس کو کرنا ہے برابر کوشش جاری رکھے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوششوں میں ناکام ہو جاتا ہے۔ مگر مرد وہ ہے جو ناکام ہونے پر بھی جتنی کوتاہی رکھے اور پھر کوشش اسی طرح کرے جیسی پہلے کر چکا ہے

ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسے انسان کی قدرت ضرور مدد فرمائے گی۔ اور ایک دن وہ ضرور کامیاب کے درجہ پر پہنچے جائے گا۔ لیشرطیکہ اپنا ارادہ پختہ رکھتا ہو۔ اسی طرح بہت سے لوگ امیر بننے کے خواب تو دیکھتے ہیں مگر کوشش کون کرے کیونکہ لپٹ بہت ہیں ایسے لوگ کوئی وظیفہ یا نقش عمل میں نہ لائیں کیونکہ مہنت اور اعتقاد سے سب کچھ ملے گا۔ مگر لپٹ بہتی اور بد اعتقاد کی سے کچھ نہ ملے گا۔ اس لئے ایسے لوگ اپنا وقت بھی برباد کریں گے اور وظیفہ یا نقش کی بھی بدنامی ہوگی۔

جو لوگ اعلیٰ ہمت ہیں اور اعتقاد پختہ رکھتے ہیں وہ ہر کام میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا وہ ہر وظیفہ اور نقش سے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ وہ ضرور ان نقشیات سے فائدہ حاصل کریں۔

مندرجہ ذیل نقش مبارک ایسے لوگوں کے لئے بہترین ہے اس کے اوصاف بہت ہیں۔ جن کو اس مختصر مجموعہ میں درج نہیں کر سکتے۔

بہر حال اس نقش مبارک کی برکت سے انسان مال دار بن جاتا ہے۔ یہ نقش برقی اثرات رکھتا ہے۔
نقش معظّم یہ ہے

برکت کیلئے نقش

بہت سے لوگوں کے یہاں برکت نہیں ہوتی یا تجارت و دوکان پر مال فروخت نہیں ہوتا اور اصل رقم گھٹتی جاتی ہے اور نقصان کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی ایسے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں لیکن سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ برکت کے لئے مندرجہ ذیل نقش کام میں لائیں۔ جس کی وجہ سے اتنا فائدہ ہوگا کہ تعجب ہوگا۔
وہ نقشِ معظم یہ ہے۔

۱۱۴	۱۱۹	۱۳۰	۱۲۹
۱۱۸	۱۱۵	۱۳۵	۱۳۴
۱۲۷	۱۲۶	۱۳۱	۱۳۲
۱۲۰	۱۲۸	۱۳۶	۱۲۳

۲۵	۲۴	۲۱	۲۰
۲۲	۱۷	۱۲	۲۳
۱۶	۱۹	۲۶	۱۳
۱۱	۲۲	۱۵	۱۸

ترکیب یہ ہے کہ اس نقش کو سفید کاغذ پر نیک ساعت میں زعفران یا مشک سے لکھیں اور شکل تعویذ اس نقش کو اپنے پاس رکھیں انشاء اللہ اس کی برکت سے وہ کالا مال ہو جائے گا۔ اور ہر شخص اس کی عزت کرے گا۔
اور لوگ تعجب کریں گے کہ اس شخص کی دنیا کیوں اتنی عزت کرتی ہے۔ !

ترکیب اس کی یہ ہے کہ چاند رات ہو جائے تو پہلی جمرات جو کہ
توحید جمرات کہلاتی ہے اس نقش کو سورج نکلنے سے ایک گھنٹہ
تک بلدی کے پانی سے وضو کر کے لکھیں اور ریح قبلہ کی جانب ہونا چاہئے
تعدادی دو نقش لکھیں۔ نقش لکھنے سے پہلے ایک سو ایک مرتبہ درود
شریف پڑھیں۔ اور دونوں نقش لکھنے کے بعد پھر ایک سو ایک مرتبہ
درود شریف پڑھیں اور دونوں نقشوں پر دم کر دیں۔ ایک نقش کو
تجوری جس میں روپیہ ہو رکھ دے یا اس دوکان میں رکھے جس میں
مال ہو اور دوسرا نقش قریب کے دریا، تالاب یا نہر میں بہا دے
انشاء اللہ تعالیٰ مال میں بہت فائدہ اور برکت ہوگی۔ اور جس تجوری
میں یہ نقش ہوگا اس میں اتنی برکت ہوگی کہ کتنا ہی صرفہ ہو جائے لیکن
تجوری کے کیش میں قطعی کمی نہ آئے گی۔

اگر پہلی جمرات سے دوسری جمرات تک اثرات ظاہر نہ ہوں تو
مذکورہ بالا عمل پھر دوبارہ کریں۔ اور اس پہلے نقش کو جو تمہاری
دوکان یا تجوری میں ڈالا ہوا ہے اس کو دریا، تالاب یا نہر میں بہا
دیں۔

دوبارہ اس عمل کے کرنے سے انشاء اللہ ضرورت دافع نہ
ہوگی۔

آسیب زدہ و نظر بد کیلئے

کچھ لوگ تندرستی کے عالم میں ہوتے ہوئے فوری طور پر پاگل
مجبوط الحواس اور دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ دنوں کے بعد اپنی
پہلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ حکیم ڈاکٹروں اور عوام کی مختلف رائے
اس سلسلے میں ہوتی ہیں۔ کوئی دماغ کا خلل بتاتا ہے تو کوئی آسیب
اسی طرح بہت سی باتیں بنتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے یہ نقش
بہترین کام کرتا ہے اور یقینی طور پر صحت حاصل ہو جاتی ہے۔
نقش یہ ہے :-

روح اللہ	۲۳	۲۲	۱۱
خاتم سلیمان	۲۱	۱۲	۱۵
یا بدوح	۱۳	۱۶	۱۸
۱۲	۱۷	۱۹	۲۰

ترکیب اس کی یہ ہے کہ ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا لیں اور ایسے دین جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے کے جسم پر ملتے جائیں اور سورہ منزل شریف پڑھتے جائیں۔ جب سوز ختم ہو جائے تو اسی کاغذ پر جو کہ مریض کے جسم پر ملا گیا ہے سیاہ روشنائی سے لکھیں اور اس کا فلیٹ بنا کر دین کا پھٹا ہوا استعمالی کپڑا لپیٹ کر فلیٹ تیار کریں اور ایک دیئے میں کڑاوا نیل لے کر اس فلیٹ کو ڈال کر روشن کریں۔ یہ دیا مریض کی آنکھوں کے سامنے روشن رہنا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کیلئے بھی سحت آسیب کیوں نہ ہوگا وہ بھی رفوچکر ہو جائے گا۔ اس عمل سے آسیب، جن کا اثر۔ نظریہ سب ختم ہو کر صحت کلمی حاصل ہوتی ہے۔

علاوہ اس کے اس عمل سے اور دوسری بیماریوں کو بھی تھین پہنچتا ہے۔ بارہا کا آزمودہ تجربہ عمل ہے۔ آزما کر خود تجربہ کریں۔

پہلے براہ رسی پیش

پس پست پرانج دو نوں تلخہ الکیس مرئبہ کو تر
الکیس بزم محل آخ بزم حاضر ہو دایرہ قرار
ترکیب حاضر در بانف =

رس مس ہاگ، حاضر ہو کر

مرض کی تشخیص کیلئے نقش

اگر کوئی شخص بیمار ہو اور صحت نہیں ہوتی ہو۔ ہر ایک کی مختلف تشخیص ہے۔ کوئی جادو بتاتا ہے۔ کوئی آسیب بتاتا ہے۔ کوئی جن کے اثرات بتاتا ہے تو کوئی دماغ کا خلل بتاتا ہے غرض کے مختلف رائے ہونے کے سبب کوئی علاج درست طریقہ پر نہیں ہو پاتا۔ ہر علاج غلط طور پر ہو رہا ہو اور بجائے صحت ہونے کے اور مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہو تو ایسے مریض کے اس نقش سے کام لیں انشاء اللہ فوراً صحیح حالات سے آگاہی ہوگی۔ نقش یہ ہے۔

ترکیب اس کی یہ ہے کہ اس نقش کو تلبدی کے پانی سے چینی کی طشت پر لکھ کر اور پانی سے دھو کر مریض کو یہ پانی پلا دے۔ اس پانی کو پی کر اگر مریض ہنسنے لگے یا معمولی تیسیم چہرے پر نمایاں ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ اس پر آسیب ہے۔

اگر مریض طشتی کے پانی کو پی کر رونے لگے یا رونی جیسی شکل بنالے تو سمجھ لینا چاہئے کہ اس مریض پر صحیح یعنی جادو کے اثرات ہیں اور کوئی دوسرا مرض ہرگز نہیں ہے۔

اگر مریض پانی پینے کے بعد نہ تو چہرہ لگاڑے اور نہ چہرے پر کسی یا مسکراہٹ ظاہر کرے نہ روئے بلکہ خاموش رہے تو سمجھ لینا چاہئے کہ اس کو کوئی جسمانی مرض ہے اور آسیب یا جادو وغیرہ ہرگز نہیں ہے۔

یہ طریقہ بہت سہل ہے اور فوری طور پر جملہ باتوں کی تصحیح ہو جاتی ہے اور علاج درست طریقہ پر ہو کر مریض جلد ہی صحت حاصل کر لیتا ہے۔ ورنہ غلط علاج سے گھل گھل کر زندگی ختم کر دیتا ہے۔ یہ نسخہ ایک درویش فیئر سے ایک صاحب کو بڑی دشواری سے حاصل ہوا۔ جس کی حکایت درج کرنے کے لئے کافی صفحات درکار ہیں اس لئے مختصر الفاظ میں بتا دینا بہت کافی ہے کہ یہ عمل

ی حید ایسے مریضوں پر استعمال کر کے تجربہ کیا جس کا ذکر اوپر آیا چکا ہے۔ قدرت خداوندی سے بہت کامیاب پایا۔ اس لئے مختصر مجموعہ میں درج کیا گیا کہ عوام اس سے فائدہ حاصل کریں۔

مریض کی صحت کے لئے

نقش مندرجہ ذیل ہر چھوٹے بڑے مریض کی صحت کے لئے ایسا کام کرتا ہے اور مجرب ہے۔ جب کہ مریض کو اسی طرح سے نمانہ ہوتی ہو اور مرض لا علاج ہو جائے۔ تب اس روحانی علاج ذریعہ علاج کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں نقش اور طریقہ درج ذیل ہے۔

ترکیب اس کی یہ ہے کہ :- نو حید حیات کو زعفران سے لکھ کر موم جامہ کرے اور مریض کے گلے میں پہنا دے۔ بعد

بیوی کو فرما نبرد دار بنائے کیلے

اگر زن وشوہر کے درمیان ان بن رہتی ہو اور بیوی شوہر کے حکم
کی نافرمانی کرتی ہو۔ جس کی بنا پر کشیدگی رہتی ہو تو اس نقش سے زیادہ
موتز نقش شاید نہ مل سکے گا۔ اس نقش کی برکت سے زن وشوہر کے
درمیان خاطر خواہ محبت اور پیار ہو جاتا ہے اور بیوی فرما نبرد دار
بن جاتی ہے اور آٹا فائنا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے بارہا کا
آزمایا ہوا تجربہ ہے۔ نقش منظم یہ ہے !

۱۴۷۸	۱۴۸۱	۱۴۱۵	۱۱۵۶
۳۱۸۳	۱۴۶۳	۱۴۱۷	۳۱۸۲
۳۱۸۰	۱۴۷۵	۳۱۷۹	۳۱۷۶
۳۱۷۲	۱۴۷۱	۳۱۷۳	۱۴۷۳

۱۱	۸۸	۳۰	۲۲
۹۹	۲۲	۵۵	۵۰
۱۰	۶۶	۳۳	۶۰
۷۷	۲۰	۲۰	۲۲

مریض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر

یا حی

بے لقا اور پڑھے۔ یہاں تک کہ مریض آنکھیں بند کر لے۔ جب
مریض آنکھیں بند کر لے تو مریض کے سینے پر دم کہ دے۔ بحکم
حلبہ نشفا ہو جائے گی۔
نقش ایک ہی کافی ہوگا۔ مگر یا حی روزانہ اسی طرح
دم کرتا رہے۔ !

ترکیب اس کی یہ ہے کہ اس نقش کو نیک ساعت میں لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لے۔ جتنی مرتبہ بیوی کی نظر اس کے چہرے پر پڑے گی۔ یہ فرما بزدار ہو جائے گی اور محبت کرنے لگے گی۔

فائدہ حاصل کرنے کے لئے

جو شخص تجارت پیشہ ہو اور اس کو فائدہ کے بجائے نقصان ہی ہوتا ہے اس وجہ سے سخت پریشان ہو ایسے شخص کو چاہئے کہ اسم مبارک یا قبوہ کی ہر روز ایک ہزار مرتبہ تلاوت کیا کرے اور ایک روز بھی ناعذہ نہ کرے علاوہ اس کے مندرجہ ذیل نقش کو ہر روز ۲۵ لغویہ لکھے اور قریب کے دریا اتالاب یا نہر میں بہا آئے۔
نقش یہ ہے۔

۵۵	۵۶	۵۳
۵۰	۲۸	۵۲
۵۱	۵۲	۲۹

اس عمل کے مسلسل کرتے رہنے سے اتنا فائدہ ہوگا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے۔ اگر علاوہ تجارت کے روزگار کے لئے اس عمل کو کیا جائے تو خاطر خواہ غیبی امداد ملے گی۔ بہت زود اثر ہے۔

حب کیلئے

محبت کیلئے یہ عمل اپنی مثال آپ ہے جس کی تریف جتنی لکھی جائے گی وہ کم ہوگی۔ یہ تباہی نیا ضروری ہے کہ یہ نقش محبت ایک بانہی بزرگ کا عطیہ خاص الخاص ہے۔ جنہوں نے اپنی بیامن میں طویل اسناد کے ساتھ مسدوح فرمایا ہے۔ اور خاکسار کو اپنی عنایت خاص سے مرحمت فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس عظیم اثر نقش کو نہایت احتیاط سے رکھنا اور انتہائی مجبوری میں جب تمام کوششیں ناکام ہو جائیں تب اہل حاجت کے لئے اس نقش کو کام میں لانا۔ اس نقش کی تاثیر معجز نما ہے۔

اکثر مرتبہ کا آزمودہ مجرب ہے۔ محبوب کتنا ہی نفرت کرنے والا کیوں نہ ہو اس کی برکت سے فی الفور اس کا دل موم ہو جاتا ہے

اور بیچین و بیقرار ہو کر طالب کے قدموں پر گر جاتا ہے۔ چاہے راہ میں کانٹے ہوں پہاڑ ہوں دریا ہوں کوئی شے اس کو نہیں روک سکتی۔ مگر شرط یہ ہے کہ طلب جائز ہو۔ اس کا ضرور خیال رکھیں مندرجہ بالا ارشاد کے ساتھ افادہ عام کی غرض سے ان نقش منبرک کو درج کیا جا رہا ہے۔ تاکہ فائدہ حاصل کریں اور خاکسار کو دعائے خیر میں یاد کریں۔

۱۶	۱۳	۸	۱
۴۴	۹	۲	۵
۱۰	۲	۶	۱۱
۴	۷	۱۲	۱۵

ترکیب :- محبت کے واسطے اس نقش کو لکھ کر روٹی میں لپیٹ لیں۔ اور قلبیتہ بنائیں۔ بعدہ ایک کورے ڈیلے میں روغن کنجد ڈال کر پاک جگہ میں رکھیں اور روشن کر دیں۔ روح اس چراغ کا خانہ محبوب کی جانب رکھیں۔ جب چراغ گل ہو جائے تب شترینی پر فاتحہ محبوب سبحانی اور شاہ عبدالصمد کی دے کر معصوم بچوں میں تقسیم کر دے۔

اس عمل کو مسلسل ۴۰ دن تک کرتا رہے اور نمانہ ایک دن کی بھی نہ ہونے پائے۔

خدا کی ذات پاک سے قوی امید ہے کہ اندر ایک ہفتہ میں ہی کامیابی ضرور ہو جائے گی۔

نوٹ :- اس نقش کے نیچے فلاں بن فلاں یعنی مشتوق کا نام اور اس کی والدہ کا نام ضرور لکھیں۔

دُورلوں میں نفرت

پیدا کرنے کیلئے

اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جن دو شخصوں کے درمیان بہت ہی زیادہ پیار و محبت ہو اور وہ چاہے کہ ان میں نفرت اور بغض و حسد پیدا ہو کر جھگڑا ہو جائے اور ایک دوسرے کو شدید نقصان ہو تو ایسی صورت میں اس نقش سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن بغیر کسی وجہ

کے ایسا کرنا گناہِ عظیم ہے۔ اگر ان دونوں نے خاص جانی یا مالی نقصان پہنچ رہا ہو تو ضرور اس عمل کو کام میں لائیں۔ ورنہ درگزر کر دینا ہی بہتر ہے۔

نقش یہ ہے :-

۱۷۰۰	۱۷۰۲	۱۷۹۸	۱۷۹۶
۱۷۰۳	۱۷۰۰	۱۷۹۰	۱۷۹۹
۱۷۴۳	۱۷۹۶	۱۷۰۱	۱۷۹۵
۱۷۹۷	۱۷۰۲	۱۷۰۳	۱۷۰۲

ترکیب یہ ہے کہ قمری مہینے کی آخری سینچر کے دن آفتاب نکلنے سے ایک گھنٹہ تک یہ تعویذ سیاہ روشنائی سے لوہے کے قلم سے لکھیں اور اس نقش کے نیچے ان دونوں اشخاص کے نام جن میں تفاق کرانا ہے ضرور لکھیں۔ اور اس کے بعد اس نقش کو کسی پرانی قبر میں دفن کر دیں۔

نوٹ :- نقش کی تہہ کر کے یعنی تعویذ بنا کر اوپر نیلا دھاگہ باندھ دیں۔ ایک مہینے میں اس تعویذ کا مکمل اثر ہوگا۔ اس عرصہ گھبرانے یا پھین ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں !

حُب کے لئے

محبت کیلئے یہ نقش بھی بہترین کام کرتا ہے۔ ذیل میں درج ہے۔ محبوب کیسا بھی سنگدل اور تند مزاج کیوں نہ ہو موم ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جائز جگہ استعمال کیا جائے نا جائز نہیں۔ بصورت دیگر نقصان کے شدید خطرات ہیں۔ بھول کر بھی ایسا خیال نہ کریں۔

۷۸۶

۷۸۶	۷۸۶	۷۸۶	۷۸۶
۷۸۶	۷۸۶	۷۸۶	۷۸۶
۷۸۶	۷۸۶	۷۸۶	۷۸۶

فلاں بن فلاں

اس نقش کو چائے یا شربت میں گھول کر ایک سفینہ بلا ناغہ کسی بھی صورت سے محبوب کو پلا دے۔

زبان بندی کیلئے نقش

اگر کسی شخص کا کوئی دشمن اپنی بد زبانی اور بد کلامی سے ایذا پہنچاتا ہو۔

علاوہ اس کے دیگر اشخاص کو بھی دکھ ہی پہنچتا ہو اور سب لوگ اس کی اس حرکت سے بیزار ہوں تو اس کے لئے یہ نقش بہت ہی کامیاب ہے بارہ کا آزمودہ ہے۔ کبھی خطا نہیں کرتا۔

مغرب ہے۔

نقش یہ ہے۔

۱	۱۱	۱۲	۱۶
۵	۲	۱۳	۱۵
۸	۶	۳	۱۳
۱۰	۹	۷	۴

ترکیب :- اس کی یہ ہے کہ اس نقش مبارک کو سفید کاغذ پر سیاہ روشنائی سے لکھ کر موم یا مہ کر لیں اور بہت بھاری پتھر کے نیچے دبا دیں۔

نوٹ :- نقش کی لپٹ پر یہ عبارت بھی ضرور لکھیں۔

" بند کردن زبان فلاں بن فلاں از بدی خود یا فلاں

بن فلاں

دستِ غیب کیلئے

دستِ غیب کے لئے یہ نقش بہترین ہے اور فوری اثرات دکھاتا ہے۔ اس کے باوجود اتنا سہل بھی ہے کہ ہر خاص و عام بہ آسانی اسے کے ذریعہ دستِ غیب حاصل کر سکتا ہے۔

نقش معظم اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔!

۲۴۹	۲۵۸	۲۵۹	۲۴۴
۲۴۰	۲۴۱	۲۶۰	۲۵۷
۲۴۷	۲۷۳	۲۵۶	۲۲۷
۲۵۵	۲۴۸	۲۴۵	۲۴۲

ترکیب اس کی یہ ہے کہ عروج ماہ کی نیک ساعت میں یہ نقش
ہر روز اٹھارہ مرتبہ مشک و زعفران سے دس روز مسلسل لکھو
ہر روز کے لکھے ہوئے نقش ہر روز کسی دیرانے میں دفن کر دیا کریں
دسویں روز جب یہ لکھے ہوئے نقش دفن کرنے جائیں گے۔ تب
ایک بزرگ سفید ریش اس جگہ ملیں گے اور ایک روپیہ چار آنے
دیں گے وہ لے کر اس نقش کو دفن کر کے آجاؤ اور چار آنے حیرات
کر دو۔ ہر روز اس جگہ سے ایک روپیہ چار آنے ملا کریں گے ہر
روز اسی طرح تصرف کریں ایک پائی نہ بچائیں اور نہ کسی سے
ذکر کریں۔

~~~~~

## مرض مسان کا کامیاب علاج

اکثر بچے مرض مسان جسے سوکھے کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ مبتلا ہو جاتے  
ہیں۔ اور گھٹل گھٹل کر مر جاتے ہیں۔ اور بہت سے گھرانوں میں اس مرض کی  
وجہ سے بچے دکھائی نہیں دیتا۔ اگر دیتا بھی ہے تو اس مرض میں مبتلا  
بچے کے جو کچھ دنوں زندہ رہ کر دکھائی بنید سو جاتا ہے۔ جس کی وجہ  
سے یہ گھر سونا ہو جاتا ہے۔ والدین ہزاروں روپیہ برباد کر دیتے  
ہیں۔ اور ہر وقت اس دکھ کی وجہ سے پریشان ہال رہتے ہیں۔ ان  
لوگوں کو چاہئے کہ مندرجہ ذیل نقش کو کام میں لا کر قدرت خداوندی  
کا رشمہ دیکھیں۔ اور قدرت خداوندی پر پورا پورا بھروسہ بھروسہ  
کہتے ہوئے اس کو کام میں لائیں۔ نقش یہ ہے۔


طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کو سفید کاغذ پر خون کبوتر سے  
لکھیں اور اس کا فلیتہ بنا کر ہر شب اس نقش کی دھونی بچے کو دے  
دیں کہ اس طرح سمٹائے کہ اس کے تمام جسم کو اس فلیتہ کی دھونی  
لکھیں۔ نقش اگلے صفحہ پر درج ہے۔

|       |       |
|-------|-------|
| المیخ | المیخ |

اس نقش کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر چالیس روز تک اس نقش کی دھونی اگر حاملہ عورت کو دی جائے تو اس کے بچے کو جو کہ پیدا ہونے والا ہوگا۔ کبھی یہ بیماری نہ ہوگی۔ اور بچہ بالکل تندرست پیدا ہوگا۔ مجھ فقیر نے اس نقش کو رفاہ عام کیلئے درج کیا ہے۔ تاکہ عوام فائدہ اٹھائیں۔ اور فقیر کو دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔

## فساد خون کا بہترین علاج

اگر کسی شخص کے خون میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اور اس کے جسم پر بھوڑے پھینیاں وغیرہ نکلنے لگیں۔ یا وہ مرض پیدا ہو جائیں جو بعض خون کے خراب ہونے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہر روز صبح کے وقت نیم کے سات بڑے بڑے تپتے لیکن ان پر سپاہی سے ذیل کا نقش لکھو اور لکھنے کے بعد ان نقشوں کو اچھی طرح پانی میں جوش دیں۔ اتنا پکا میں کہ پانی چہارم کی تعداد میں باقی رہ جائے۔ اس کے بعد پتوں کو پھینکیں اور یہ جوش دیا ہوا پانی مرین کو پلائیں۔



اور بموجب طریقہ مذکورہ بالا پلا میں - انشاء اللہ اس نقش  
مبارک کے ذریعہ تمام جسم کا خون بھی صاف ہو جائے گا - اور آئندہ  
جن امراض کے ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا - وہ بھی جاتا رہے گا  
دوروز تک تو سات پتے نقش لکھے ہوئے جوش دے کر پلا میں اس کے  
لبد ہر روز ایک پتے پر نقش لکھ کر اضافہ کرتے رہیں - اکیس روز تک  
مسلل اضافہ کرتے رہیں - اکیس روز کے بعد اس عمل کو ختم کر دو - اس  
مدت میں مریض کا من ختم ہو جائے گا - اور صحت بحال ہو جائے گی اور  
کوئی شکایت باقی نہ رہے گی - یہ نقش صرف خون کی خرابی کیلئے ہی استعمال  
نہیں کیا جاسکتا - بلکہ گرمی کو بھی دور کیا کرتا ہے - چہرے کا رنگ بھی  
لکھا جاتا ہے - جسم کو توانا اور مضبوط بنا کر کندن کی طرح چمکا دیتا ہے  
تجربہ کرنے پر خود ہی پتہ چل جائے گا - بہت مجرب ہے -

مجھ فیض کی ہر شخص کیلئے ہدایت ہے کہ جس کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ  
اس کے محلے پڑوس یا شہر میں کوئی مریض اس قسم کا ہے تو اس کو یہ نقش  
لکھ کر دے یا تبادے تاکہ ہر خاص و عام فائدہ حاصل کر سکے - !

## مقدمہ میں کامیابی کیلئے تسوید

اگر کسی پر مقدمہ چل رہا ہو اور کوئی صورت کامیابی کی نظر نہ  
آتی ہو - ہر طرح سے یہی ہو کہ عدالت اس کے خلاف ہی فیصلہ سنائے  
گی - تب مندرجہ ذیل نقش کو اپنی پگڑی یا ٹوپی میں رکھ کر تاریخ پر  
جائے - حاکم صورت دیکھتے ہی مہربان ہو جائے گا اور اس کی سہجی  
حاصل ہو جائے گی - خواہ حاکم کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو اس نقش معظ  
کی برکت سے وہ اس کا دوست بن جائے گا - وہ اسی کے حق میں  
فیصلہ سنائے گا - نقش معظ یہ ہے -

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۸ | ۶ | ۱ | ۳ | ۸ | ۶ |
| ۱ | ۳ | ۸ | ۹ | ۱ | ۳ | ۹ | ۰ |
| ۱ | ۳ | ۹ | ۱ | ۱ | ۳ | ۸ | ۸ |
| ۱ | ۳ | ۸ | ۵ | ۱ | ۳ | ۸ | ۷ |

طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک کاغذ پر پاک سیاہی سے اس نقش کو لکھیں۔

چالیس روز تک سورہ منزل شریف پڑھ کر دم کرتے رہیں۔ اور اس درمیان جھوٹا ایک لفظ بھی نہ بولیں۔ اس کے بعد ٹوپی یا بگڑھی میں رکھ کر کام میں لائیں۔  
یہ ہر ایسے کام کے لئے مجرب ہے جو کسی دوسرے شخص سے

والسببہ نہیں ہو۔

## پڑھنے میں دل لگنے کیلئے نقش

بہت سے بچے ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ لکھنے پڑھنے میں ان کا دل نہیں لگتا اور ان کے والدین کی یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خوب اچھی طرح لکھا میں پڑھائیں اور کسی اچھی جگہ ملازم کرادیں۔

لیکن حیب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد کا پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا۔ تو ان کی مسرتوں کا خون ہو جاتا ہے۔ ان کی تمنائیں پانی بن کر بہ جاتی ہیں۔

اور وہ ضرورت سے زیادہ پریشان رہنے لگتے ہیں۔ ایسی مسرت میں وہ اس نقش سے کام لیں۔  
طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کو تانبے کے پترے پر کندہ کرالیں اور اس کے اوپر کے حصہ میں سوراج کر کے ڈھاگ ڈال کر طالب علم کی گردن میں ڈال دیں۔

مجھے تمام چوری کے حالات ظاہر ہو جائیں۔ اور جو چیز کھوئی ہوئی ہے اس کا ضرور سراغ مل جائے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد چیت لیٹ جاؤ۔ اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لو۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ خواب ہی میں تمام حالات کا انکشاف ہو جائے گا۔ اور جو چیز جس شخص نے جہاں رکھی ہوگی۔ یہ سب خواب میں دکھائی دے گا۔ اسی طرح کھولی ہوئی چیز بھی دکھائی دے جائے گی۔ صبح کو بیدار ہونے پر تمام اشیاء جو چوری ہوئی تھیں اور وہ شخص جس نے چرائی تھیں حاصل کر لیں۔

## دوسرا فائدہ

اسی نقش کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کی چوری کا شک گھر کے لوگوں پر ہو تو رات کے وقت یہ تعویذ اس کے سر پہانے رکھ دیں اور ایک مرتبہ درود شریف اس پر پڑھ کر دم کر دیں۔ اگر اس شخص نے کوئی چیز چرائی ہے تو سوتے میں یہ شخص تمام حالات خود بخود بتائے گا۔ آپ جاگتے رہیں تاکہ سن لیں اور چوری برآمد کر لیں۔ اگر اس شخص نے چوری نہیں کی ہے تو یہ شخص کچھ نہ بتائے گا۔ خاموش سوتا رہے گا۔ اسی طرح دوسرے روز اس نقش پر درود شریف پڑھ کر

|      |      |      |
|------|------|------|
| طلسم | طلسم | طلسم |
|      | ۳    | ۷    |
|      | ۹    | ۵    |
| طلسم |      | طلسم |

انشاء اللہ بچہ کتنا ہی پڑھنے سے دل چھوڑ چکا ہو اور بدستور ہو گیا ہو۔ اس نقش کی برکت سے بڑے شوق سے تعلیم حاصل کرے گا۔ اس نقش سے اور بھی بہت سے فائدہ ہیں۔

## گمشدہ چیز کا سراغ لگانے کیلئے

اگر کسی شخص کی کوئی چیز جاتی رہے یا اس کے مکان میں چوری ہو جائے یا کوئی چیز کسی جگہ رکھ کر کھو گیا ہو اور وہ یاد نہ آتی ہو۔ تو ایسے حالات میں یہ نقش معجز سیما ہی سے لکھیں اور اس کا تعویذ بنا کر کچے دھاگے میں اچھی طرح لپیٹ دو۔ رات کو جب سونے لگو تو سونے سے قبل ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھو درود شریف پڑھنے کے بعد اس نقش کو سر ہانے رکھو۔ اور دل میں یہ خیال کرو کہ آج خواب میں

دوسرے شخص کے سر ہانے رکھ دیں۔ اگر یہ چور ہوگا تو سب کچھ بتا دے گا۔ ورنہ نہیں۔ اسی طرح جتنے اشخاص پر شک ہو ان کے ساتھ یکے بعد دیگرے یہی عمل کریں۔ ان میں سے جو بھی چور ہوگا عالم خواب میں سب کچھ بتا دے گا۔  
نقشِ معظّم یہ ہے۔

۷۸۷

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| ۷۸۷ | ۷۸۷ | ۷۸۷ |
| ۷۸۷ | ۷۸۷ | ۷۸۷ |
| ۷۸۷ | ۷۸۷ | ۷۸۷ |

اس نقوش کے ذریعہ چور اور چوری کا مال بہ آسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ ایک کامیاب عمل ہے۔ جس کو چند بار آزمایا ہے اور کامیاب پایا ہے۔

مفتی عبدالرشید - پونہ  
۱۱۵ نمبر نول السریٹ  
کلکتہ ۱۶

## خواب میں نہ ڈرنے کیلئے نقش

اکثر بچے رات کو سوتے سوتے ڈر جاتے ہیں۔ اکثر حالتِ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ رات کو خواب میں بچوں کی طرح در ادنیٰ تشکیلیں دکھائی دیتی ہیں جن کی تشکیلوں سے بچہ ناواقف ہوتے ہوتے ہیں۔ ان کے والدین کو چاہئے کہ مستدرجہ ذیل نقش کا استعمال کریں

|    |    |    |
|----|----|----|
| ۹  | ۱۱ | ۱۷ |
| ۱۰ | ۶  | ۱۲ |
| ۵  | ۱۳ | ۸  |

طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک سفید کاغذ پر یہ نقش لکھ کر اور موسمِ ہارمہ میں لپیٹ کر اپنے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ اس سے بچے ہرگز نہ ڈرے گا اور نہ روئے گا۔ اور نہ ہی راتوں کو والدین کی تنہیدِ شراب ہوگی۔

## میاں بیوی میں باہمی محبت پیدا کرنے کیلئے تصویب

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر اپنی بیوی سے بول چال اور محبت کرنا ترک کر دیتا ہے۔ اور اس کو اس سے دلی نفرت ہو جاتی ہے۔ جس سے بیوی سخت پریشان اور غمگین رہنے لگتی ہے ایسی حالت میں اس کو چاہئے کہ مندرجہ ذیل نقش کو استعمال میں لائے۔

نقش یہ ہے :-

|      |     |      |     |      |
|------|-----|------|-----|------|
| فلاں | بن  | فلاں | ۷۸۶ | ت    |
| ۷۸۶  | ح   | ح    | ب   | ۷۸۶  |
| م    | ۷۸۶ | فلاں | بن  | فلاں |

طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس نقش کی تین نقلیں کرے اور زعفران

سے لکھے۔

پہلے نقش کو صاف و شفاف پانی میں حل کرے جب حروف پانی میں گھل جائیں تب کاغذ کو نکال لیں اور یہ پانی بیوی اپنے شوہر کو پلاوے۔ دوسرا نقش رات کو سونے وقت اپنے خاوند کے سر ہانے لگنے کے نیچے رکھ دے۔ اور تیسرا نقش اپنی چوٹی میں باندھے۔ ان شاء اللہ فوراً ہی اس کی بیوی کے شوہر کے دل پر اثرات ہوں گے۔ اور اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرنے لگے گا۔

دوسرا قافلہ اس نقش سے یہ بھی ہے کہ بنا وجود ہر روز پیار و محبت میں اضافہ ہونے کے جب تک زندہ رہیں گے۔ ہرگز ہرگز لڑائی نہ ہوگی۔

اس عمل کو بیوی پوشیدہ طور پر کرتی رہے شوہر کو معلوم نہ ہونا چاہئے۔

## سربراہی کے حب

یہ سرمہ کا عمل اتنا سہل اور آسان ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس پر اعتقاد نہیں ہوتا۔ کیوں کہ انسان زیادہ تر یہ سمجھتا ہے کہ میں حب تمام کوششیں کر کے تھک گیا اور اپنے محبوب کو نہ پاسکا تو اس معمولی اور سہل عمل سے میں اپنے محبوب کو کیا پاسکتا ہوں۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں کہ دل سے نکلی ہوئی ہر بات اثر رکھتی ہے۔ اگر عامل عمل پر پورا پورا بھروسہ اور اعتقاد رکھتے ہوئے عمل کرے گا تو یہ دعویٰ ہے وہ ناکامی کا کبھی منہ نہ دیکھے گا۔ اور جس وقت تذبذب خیال ہو یقیناً ناکامیاب ہوگا۔ اس لئے عمل سہل ہو یا مشکل اعتقاد کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ ورنہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ جو لوگ بد اعتقاد ہوں وہ ہرگز ہرگز عمل پڑھنے کی جرات نہ کریں۔ سرمہ کا عمل درج ذیل ہے۔

تولہ دو تولہ یا کم جتنا مناسب سمجھیں سرمہ لیں اور ہر روز رات کو ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ متواتر چالیس روز تک

یہ عمل بلاناغہ کرتے رہیں۔ اور سرمہ پر دم نہ دیا کریں۔ جب عمل ختم ہو جائے تب اس سرمہ کو اپنی آنکھوں میں لگا کر اپنے محبوب کے سامنے جائے۔ جس وقت آنکھوں سے آنکھیں ملیں گی۔ محبوب طالب کی محبت میں بیقرار ہو جائے گا۔ اور سچے سچے پھرے گا۔

## رقیب کے سزا دینے کیلئے بہترین نقش

اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کا محبوب کسی دیگر شخص سے محبت کرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس نقش کے ذریعہ رقیب کو سزا دے سکتے ہیں۔ اور اپنے محبوب کو بہ آسانی اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ یہ نقش اس کام کے لئے بہترین ثابت ہوگا۔

نقش معظّم اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیے۔!


ملے۔

اگر اس صورت میں بھی محبوب ملنے سے گریز کرتا ہے یا بے رخی  
ال میں لاتا ہے۔

تب طالب کو چاہئے۔ کہ کچھیلے اوراق میں جو حب کے  
نقش درج کئے جا چکے ہیں ان میں سے کسی سہل عمل کو کام میں  
لائے۔

انشاء اللہ یقینی کامیاب ہوگا۔ اور اس کا محبوب اس کی  
حسرت میں بے قرار ہو جائے گا۔ !

~~~~~



طریقہ اس کا یہ ہے کہ چینی کی ایک طشتری کے درمیان کبوتر
کے خون سے اس نقش کو لکھے۔ اور سات روز تک ہر شب کو اس پر
سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر دم کرتا رہے۔ جب سات راتیں
اس عمل کو پڑھتے ہوئے گزر جائیں۔ تب کسی بہانے اس رقیب کی دعوت
کرے۔ اگر خود نہ بلا سکتا ہو تو اپنے کسی دوست کے مکان پر اس کی
دعوت کر دے اور اس طشتری میں جس میں نقش لکھا ہوا ہے۔ دودھ
چاول اپنے رقیب کو کھلائے۔

جب رقیب دودھ اور چاول کھالے گا تب قدرت خداوندی
کا کرشمہ دیکھیں کہ رقیب خود ہی اس کے محبوب کو تھوڑے گا۔ اور وہ
اس کا غلام بن جائے گا۔

جب یہ کاٹا راہ سے الگ ہو جائے۔ تب یہ شخص اپنے محبوب

نظر بد دور کرنے کیلئے نقش

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض خول صورت بچے دن بدن کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور انہیں قسم قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ جس سے ان کا بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور والدین دن رات پریشان رہتے ہیں اور ہزار قسم کے علاج کرتے ہیں اس پر بھی صحت نہیں ہوتی۔ اور سیکڑوں روپیہ کا ناحق خون ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ نظر بد کے معتقد نہیں ہونے اور وہ اس سلسلے میں کوئی احتیاط عمل میں نہیں لاتے جس کے سبب جانی و مالی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ نظر کوئی چیز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظر برقی اثرات رکھتی ہے۔ اتنے جلبدی اثر کرتی ہے کہ قطعاً دیر نہیں لگتی۔ لہذا جو بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں یا ماما میں بچے کاڑی میں لے پھرتی ہیں ان بچوں کے گلے میں یہ نقش ڈال دیں۔

نقش یہ ہے۔

۵	۱۳	۱۶
۱۱	۷	۱۸
۲۰	۸	۱۴
۹	۲	۱۵

طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس نقش کو سفید کاقد پر کالی سے لکھے اور لوبان کی دھونی دے کر چاندی کے تعویذ میں مندر کے گلے میں سیاہ ڈوری اس میں پرو کر باندھے۔ اور ہر نوحہ جہرات کو اس نقش کو دھونی لوبان کی دے۔ انشاء اللہ نظرہ اثرات سے قطعی محفوظ رہے گا۔

دوسرا فائدہ یہ ہے تمام آفات ارضی و سماوی سے بچنے طور پر محفوظ رہے گا۔

دلی خواہش پوری ہونے کیلئے

اگر کوئی شخص مالدار بنتا چاہتا ہو۔ اور علاوہ اس خواہش کے اسی قسم کی اور بھی خواہشیں ہوں جو بظاہر پوری ہونے والی نہ ہوں۔ تو اس شخص کو قطعاً ناامید نہ ہونا چاہئے۔

قدرتِ خداوندی پر پورا بھروسہ رکھے۔ انشاء اللہ اس نقش کی برکت سے ضرور کامیابی ہوگی۔
نقش منظم یہ ہے :-

یونس	جل جلالہ	یوسف
جل جلالہ	الْعَمَّتْ	جل جلالہ
داؤد	جل جلالہ	نوح

طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے غسل کرے پاک و صاف ہو کر نماز پنجگانہ شروع کرے۔ جمعہ کے مبارک روز نماز جمعہ کے بعد اس نقش کو کسی سفید کاغذ پر سیاہی سے نقل کرے اور با وضو ہو کر کسی حجرے میں جا بیٹھے اور اس نقش کو اپنے سامنے رکھ کر بار بار درود شریف پڑھتا رہے۔ اس عمل کو جمعہ کے روز سے شروع کرے اور کسی روز بھی نافہ نہ کرتے ہوئے بڑھتا رہے۔

جب پانچ جمعہ گزر جائیں اس وقت اس عمل کو ختم کر دیں اور اس نقش کا تعویذ بنا کر اپنی گردن میں ڈال لیں۔

انشاء اللہ تمام ارمان و آرزوئیں پوری ہو جائیں گی۔ اور جس چیز کو بھی دل چاہے گا پردہ غیب سے ملے گی۔ یہ بہت ہی کامیاب نقش ہے۔

یہ نقش ایک فقیر کا عطیہ ہے۔ جو کہ ایک خاندان کے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ اور کسی پر ظاہر نہ ہوتا تھا۔ لیکن ایک شخص کی ایسی کالامی دوستی ہو گئی مثل ایک روح دو قالب کہا جائے تو درست ہے۔ یہ شخص بہت عزیز اور تنگدست تھا۔ یہاں تک کہ جسم پر صبح سے شام تک کپڑا ہی نہ تھا۔ اس امیر کو ایک روز ایک اپنے اس دوست کی حاکمیت بہت رحم آیا۔ اور کہنے لگا کہ آج میں تم کو ایسا نقش بتاتا ہوں۔ جو

ہمارے خاندان کے سینہ بہ سینہ چلا آیا ہے۔ اور یہی ہماری خوشحالی کا راز ہے۔ تم اس نقش کو استعمال میں لاؤ۔ انشاء اللہ تمہاری حالت بھی ہم جیسی ہو جائے گی۔

چنانچہ اس نے مذکورہ بالا نقش اور طریقہ بتایا۔ جس کو اس کا عزیز دوست عمل میں لایا۔ اور بہت کامیاب پایا۔ ہم نے کاریجہ سمجھتے ہوئے کتاب میں درج کیا۔

عدو کیلے کامیاب منتر

اگر کسی شخص کی کسی شخص سے بگڑ گئی ہو۔ یعنی لڑائی تھکڑا ہو کر جانی دشمنی پیدا ہو گئی ہو۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہوں۔ اور دشمن سے بدلہ لینے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں یہ منتر عمل میں لائیں۔ یقینی کامیابی ہوگی۔

منتر اور طریقہ یہ ہے کہ ایک کاغذی لیمو حاصل کریں اور ایک سیبی جانور کا کاناٹا جو سیاہ رنگ کا اور نوکدار ہوتا ہے اور سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں ان دونوں چیزوں کو لے کر کسی ایسے کنویں پر

یا ڈھونڈ سے باہر ہو۔ وہاں پہنچ کر اپنے دونوں پاؤں کنویں کے اندر لٹکا کر بیٹھ جاؤ۔ اور آسمان کی طرف دیکھتے رہو اور ساتھ ہی ساتھ منتر پڑھتے رہو۔

"دہائی ہندومت پیر کی دہائی دہا راجہ جے پال کی۔" جب بھی آسمان پر کوئی ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے فوراً اس کانٹے کو اس لیمو میں اپنے دشمن کا نام لے کر داخل کر دو۔

اور اس لیمو کو معہ کانٹے کے لے کر واپس آ جاؤ۔ جب واپس ہونے والا رہا تو اور یہ شخص چل پڑے گا تو اس کنویں سے آوازیں آنے لگیں گی۔ اس وقت پشت پھیر کر مڑ کر نہ دیکھنا چاہیے۔ ورنہ جان لالو ہے اس لئے ایسا ہرگز نہ کریں۔ جب گھر واپس آ جائیں تو اس لیمو کو معہ کانٹے کے رکھ دیں۔

جس وقت تک یہ کاناٹا لیمو سے نہ نکالا جائے گا اس وقت تک دشمن سخت تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ جب کاناٹا لیمو سے ہٹا دیا جائے گا۔ تب دشمن کی تکلیف ختم ہوگی۔

تباہی و بربادی کیلئے نقش

اگر کوئی شخص کسی کو تباہ اور برباد کرنے کا خواستگار ہو۔ تو اس کے لئے لازم ہے کہ ایک چیل کا انڈا حاصل کرے۔ جب انڈا مل جائے تب سات روز تک کسی دریا میں سات سات عنوطے دیتا رہے اور زبان سے کہتا رہے "تباہ ہو۔ برباد ہو۔" آکھٹویں روز اس انڈے پر مندرجہ ذیل نقش کالی سیاہی سے لکھے۔

نقش یہ ہے!

۷۱۶	۱۱۱	۱۲۹۵	۱۲
۱۹۹۹	۹۹۹۹	۷۱۲	اس نقش کو چیل کے
۷۲۱	۵۱۲		انڈے پر کالی سیاہی سے اتنے
۳۱۳			باریک اور خفی حروفوں میں لکھے کہ اس انڈے پر

نقش پورا پورا آجائے۔ اور اس کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے جب انڈے پر یہ نقش لکھ لیں اس کو زمین میں گڑھا کھود کر رکھ دیں اور اس کے اوپر کیکری کی لکڑی کے کوئلے رکھ کر آگ روشن کر دے اور خود قریب بیٹھ کر یہ کہتا رہے۔

"تباہ ہو برباد ہو۔"

کچھ ہی دیر کے بعد انڈا پھوٹ جائے گا۔ اور دشمن بھی اس کے برقی اثرات سے تباہ برباد ہوگا اور سخت تکلیف اٹھائے گا۔



وظیفہ برائے کثرت رزق

حکایت ۱۱ سانچہ جو دہلی سے مٹوڑی دور کے فاصلے

پر ایک قصبہ ہے۔ جہاں ایک چرواہا رہتا تھا۔ جو بہت تنگ دست اور غریب تھا۔ گذر اوقات بڑی مشکل سے گزارتا تھا۔ دو تین وقت میں ایک وقت کا کھانا سیر ہوتا تھا۔ اس کے چار بچے تھے ایک جوان لڑکی بھی تھی۔ جس کی شادی کے لئے یہ بچپن اور پریشان تھا اس کے ایک ادھر عمر باپ اور ماں بھی تھیں۔ جن کے اخراجات کا بھی کھیل تھا۔ آمدنی نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ ہر وقت قرضدار رہتا تھا۔ آئے دن تقاضے رہتے تھے۔ لیکن صرف دو سال کے اندر ہی اندر اس نے اس جگہ ایک عالی شان مکان بنا لیا اور خوب ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے لگا۔ اپنی لڑکی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ اب اس کا کاروبار صرف یہ تھا کہ وہ اپنی زمین کاشت کے لئے کرایہ پر دے دیا کرتا تھا۔ ایک بوڑھا شخص رمضان نام کا

اس جگہ رہتا تھا۔ جو اس چرواہے کی انقلابی زندگی کا بغور سمائے کر رہا تھا۔

ایک دن رات کے وقت وہ چرواہے کے مکان پر پہنچا۔ چرواہے نے اس کی خاطر کی اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا۔

رمضان نے اس سے کہا۔

سن بھائی۔ کیا تم اپنی ترقی کا راز بتا دے سکتے ہو۔ چرواہے نے شروع میں تو جھوٹ بولا اور یہی کہا کہ میں خوب محنت سے کام کرتا تھا۔ اس لئے امیر بن گیا۔

جب رمضان نے بے حد اصرار کیا۔ تب چرواہے نے مجبور ہو کر اس سے کہا۔

بھائی دراصل بات یہ ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ میں بہت غریب تھا۔ اور ہر وقت قرضدار رہتا تھا۔ ایک دن بے مکان پر آ کر بہت بے عزتی کی اور بہت کچھ برا بھلا کہا۔ طبیعت گو بہت ناگوار معلوم ہوا اور یہی خیال پیدا ہوا کہ اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے دور مانا بہتر ہے۔ چنانچہ میں خود کشتی کرنے کے ارادے سے مکان سے اکل کھڑا ہوا۔ جنگل میں پہنچ کر ایک درخت کے تنے سے رسی لٹکانی

اور اس کا بھیندا بنا کر اپنی گردن میں ڈال لیا کہ میں اپنی زندگی ہی ختم کر دوں۔ اس وقت جب کہ میرا گلادبا جا رہا تھا۔ کسی نے رسی کو کاٹ دیا۔ اور سہارا دے کر مجھے نیچے اتار لیا۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دیں اور حیرت سے اس طرف دیکھا۔ ایک سفید ریش بزرگ میرے سامنے کھڑے تھے۔

ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ انہوں نے کہا۔ کیوں بچے تو اس طرح جان کیوں دیتا ہے۔ میں نے اپنی کل کہانی ان کو سنادی بزرگ نے آسمان کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا۔

اچھا اب گھر جا اور ہر روز رات کے وقت سونے سے قبل ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اور جب بیدار ہو کرے تو چار پائی سے اٹھنے سے قبل ایک ہزار مرتبہ پھر بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس جگہ سے غائب ہو گئے۔ میں نے ان کو تلاش کرنا چاہا مگر وہ نہیں ملے میں گھر واپس آیا اور اسی روز سے بسم اللہ شریف کمبوجیب ہدایت کے پانسوی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی۔ خدا کی دین ہے کہ مجھے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ کبھی جنگل میں سونا مل جاتا ہے اور کبھی روپے اب میری حالت بہت اچھی ہے اس وقت اگرچہ مجھے غیب سے تو کچھ نہیں ملتا البتہ میرے کاروبار میں برکت

بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور میں آج تک پیر بزرگ کے حکم کے مطابق برابر صبح اور رات کو بسم اللہ شریف پانسوی کے ساتھ پڑھتا ہوں اب تک زندہ رہوں گا پڑھتا رہوں گا۔ جیہ تک زندہ رہوں گا پڑھتا رہوں گا۔

رمضانی نے اس روز سے بسم اللہ شریف شروع کر دیا۔ اور مقدرے ہی عرصے کے بعد وہ بھی اس عزیز چرواہے کی طرح بہت امیر بن گیا۔



بچوں کے دانت نکلانے کیلئے بہترین — تعویذ

اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی بچوں کے دانت نکلنے لگتے ہیں تو انہیں بچید تکلیف محسوس ہوتی ہے اور وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسے بچوں کو یہ نقش پانی میں گھول ہر روز ایک ماہ تک پلایا جائے۔ تو دانت آسانی سے نکل آئیں گے اور کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہوگی نقش یہ ہے۔

درد سر کاٹنے کیلئے عمل

اگر کسی کے تمام سر میں یا آدھے سر میں درد ہو رہا ہو۔ اور وہ درد کی تکلیف میں بالکل بیتاب اور بیقرار ہو رہا ہو۔ باوجود دوائیاں استعمال کرنے کے بھی درد میں کمی نہ ہو۔ تب مندرجہ ذیل عمل کو کام میں لائیں۔
انشاء اللہ یقینی طور پر کلی فائدہ ہو گا۔ اور تمام تکلیف ختم ہو جائے گی۔

یہ وہ عمل ہے جو ایک خاندان کے سینہ بہ سینہ چلا آ رہا تھا۔ اور اسی خاندان میں محفوظ تھا۔ لیکن عوام کے فائدہ کے لئے اس جگہ نقل کر دیا ہے۔ تاکہ عوام اس سے فائدہ حاصل کریں اور مجھ فقیہ کو دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔

کالا کلو کلسرا کجلی بن کو جلیے۔ انکو محمد یانکدو
سر کا سارا درد جائے۔

تربیفہ اس کا یہ کہ شہادت کی انگلی اور انگوٹے سے پیشانی کو
مخامو اور زور سے دونوں انگلیوں کو آہستہ آہستہ دباتے ہوئے
یہاں تک قریب لاؤ کہ وہ ماتھے کے درمیان میں آکر مل جائیں
اس طرح سے سات مرتبہ کرو اور عمل برابر پڑھتے رہو۔ جب ایسا کہ
چکو اور عمل بھی ختم ہو جائے۔ تب تین مرتبہ پھونکیں درد کی جگہ پر
مارو۔ انشاء اللہ اسی وقت درد جاتا رہے گا۔

اندھے کی بینائی کیلئے تعویذ

ایک شخص پیدا ہوا تھا وہ بہت مالدار تھا۔ اس
نے اپنی آنکھوں کا بہت علاج کرایا۔ لیکن شفا حاصل نہ کر سکا۔
ڈاکٹروں نے بھی اس کو یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس کی آنکھیں بالکل اندھی
اور بے نور ہو چکی ہیں۔ اس لئے ان میں بینائی نہیں آسکتی۔
ابھی ڈاکٹروں کا یہ حکم سننے دو ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ
رہیں بالکل تندرست ہو گیا۔ اور اس کی دونوں آنکھیں روشن
اور منور ہو گئیں۔ جس نے بھی اس کو دیکھا بہت حیرت ہوئی۔ کیونکہ

کیسے اور کسے یعنی آسکتا تھا کہ پیدائشی اندھے کی آنکھیں
روشن اور منور ہو سکتی ہیں۔

ایک روز ایک ڈاکٹر اس نابینا کے مکان پر پہنچا اور سجد
کر کے دعا مانگا۔ پوچھا کہ آخر اس نے وہ کیا دوائی ڈالی تھی کہ
اس کے ذریعہ اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس شخص
نے جب ڈاکٹر کو حاضر دیکھا۔ تب اس نے کہا۔ گلی میں ایک فقیر
آیا مانگنے آیا تھا میں نے جو اس کی آواز سنی تو سمجھا کہ کوئی بھوکا
لہانا مانگتا ہے۔

میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا فوراً اس کے لئے کھانا
پڑا۔ اور میرے سر میں بہت چوٹ آئی خون بہنے لگا میں نے
آہ سرد بھر کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر مخامم کیا۔ اور بیٹھ گیا
فقیر نے کہا۔ کیوں بابا تجھے نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا آہ بابا
نہ آتا تو سامنے پڑے پتھر کی ٹھوکریوں کیوں کھاتا۔ اب تو میں
چاہتا ہوں کہ مر جاؤں تو اچھا ہے آنکھیں نہ ہونے کے
بہتر میری تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔
فقیر نے اپنی جیب سے سات نقش نکال کر مجھے دیے اور


کہا ہر روز ایک نقش پھٹکری کے پانی میں گھول کر اپنی آنکھوں میں لگایا کرو۔ خدا نے چاہا تو ہتھاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ خدا کی قدرت سے پہلے ہی روز لگانے سے میری آنکھیں منور اور روشن ہو گئیں۔

میں نے باقی نقش گھول کر دیکھے تو سب اس قسم کے تھے۔ چنانچہ میں روزانہ ایک نقش پھٹکری کے پانی میں حل کر کے سات روز تک آنکھوں میں لگاتا رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بینائی جس میں تریب تریب بالکل ہی محروم ہو گیا تھا مل گئی۔
نقش یہ ہے:

۲	۱	۱
۱	۱	۱
۱	۱	۱

بچوں کی شرارت کیلئے تعویذ

اکثر بچے والدین کے حلیم الطبع ہونے کے سبب یا لڑپیار کی وجہ سے شریر ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہی والدین جو صورت دیکھ کر سرور ہو جاتے تھے اب ان سے عاجز آ جاتے ہیں۔ وہ ان کو سدھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے مارتے مارتے لہجہ مارتے ہیں۔ مگر ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسے بچوں کے لئے نقش تیر بہدف ہے۔ نقش یہ ہے۔



طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر روز تازہ سیاہی سے اس نقش کو لکھ کر ادرچے سے چھپا کر اس کو پانی میں گھولا۔ اور جب اس نقش کے تمام حروف پانی میں شامل ہو جائیں اس وقت وہ پانی شریہ پانی چمکے کو پلا دو اسی طرح ہر روز صبح و شام دو وقت اکیس روز تک تعدادی بیالیس نقش بچے کو پلائے اور قدرتِ خداوندی کا کر سبتہ دیکھیے وہ بچہ جسے مار بھی درست نہ کر سکی وہ کس طرح اس تعویذ کے اثر سے نیک اور سیدھا بن جاتا ہے۔

ہائے گا۔
وہ نقش منظم یہ ہے

۵	ع	ح	ی	م	۵
۵	ط	ع	ح	ی	۵
۵	ق	ط	ع	ح	۵
۵	ن	ق	ط	ع	۵

جاڑے کے بخار کو دور کرنے کیلئے

بہترین تعویذ

اگر کسی کو جاڑے کے ساتھ بخار آتا ہو۔ اور آتے ہوئے کئی روز گزر گئے ہوں۔ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ بخار کس وقت چڑھتا

بخار اتارنے کیلئے نقشِ معظم

اگر کسی کو ہر روز بخار آتا ہو۔ اور وہ دوا کرنے کے باوجود بھی نہ جاتا ہو۔ تو مندرجہ ذیل نقش کو کام میں لائیں۔


طریقہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تعویذ سیاہی سے لکھ کر پہلے تعویذ کو گھول کر پلا دو۔ دوسرے تعویذ کو پانی میں گھول کر مزین کی پیشانی اور سینہ پر مل دو۔

انشاء اللہ تعالیٰ کیا ہی بخار کیوں نہ ہوگا۔ ضرور دور ہو

چڑھتا ہے۔

جب ان تمام باتوں کا صحیح سپنہ چل جائے تب اس نقش کو لتو بند بنا کر بخار چڑھنے سے قبل مریمین کی پیشانی پر ایک دھاگے میں باندھ کر باندھے۔ دو تین روز تک سسل یہی عمل کرتے رہیں۔

انشاء اللہ تعالیٰ مریمین صرف تین ہی روز میں بالکل تندرست ہو جائے گا۔ اور جاڑے بخار کا نام و نشان کبھی باقی نہ رہے گا۔ نقش یہ ہے۔




طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس نقش کو سفید کاغذ پر سفید شکر گوشتر کے خون سے لکھو اور اچھی طرح لوبان کی دھونی دے کر اس کا لتو بند بنا لیں۔ جب یہ دیکھو کہ مریض کو بخار چڑھنے والا ہے۔ تو وقت سے پہلے ایک

سفید دھاگے میں باندھ کر مریمین کی پیشانی پر باندھ دیں۔ قدرت خدا والہی اور اس نقش کی برکت سے بخار ہرگز ہرگز نہ چڑھے گا۔ دو روز اس نقش کو برابر باندھیں۔ شفاء کلی حاصل ہوگی۔

تپ و لرزہ کے لئے نقش

اگر کسی شخص کو روزانہ بخار آتا ہو اور کسی دوائی سے فائدہ نہ ہوتا ہو۔ تب اس کو چاہئے کہ قدرت خداوندی پر پورا پورا بھروسہ رکھتے ہوئے دعفران سے ایک سفید کاغذ پر مستدرجہ ذیل نقش کی نقل و حرکت لے لیں اور چینی کے پیالے میں ڈال کر اس کو گھولے اور جب کاغذ پر سے لٹوئی پانی میں گھل جائیں۔ تو یہ پانی مریض کو پلائیں۔

اس نقش کا استعمال تین روز تک کریں۔ اگر مرض پورے وقت سے نہ جائے۔ تو ضرورت کے مطابق استعمال کرتے رہیں۔ انشاء اللہ ضرور شفاء ہوگی۔
نقش اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔!



گہڑے دل حاکم کے سامنے جانے

کیلئے نقش معظم

اس نقش کو سفید کاغذ پر پاک سیاہی سے لکھے اور چالیس تک اس پر سورہ قل ہوا اللہ شریف پڑھ کر برابر دم کرتا رہے۔ اور تک چالیس روز نہ گزر جائیں عامل اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولے۔

اتنی مدت گزر جانے کے بعد اگر وہ اس کو اپنی ٹوپی یا پگڑی پر رکھ کر کیسے بھی سخت سے سخت حاکم کے سامنے اپنے مقصد کے لئے جائے گا۔ انشاء اللہ یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ اور بے مراد ہرگز

یا حییٰ یا قیومہ بدحتک استغیث۔

عجیب تاثیر عمل بڑے وسعت رزق

از ملک قل اللہ مالک ملک تا بقیر حساب ۵

اس طرح پڑھے کہ اول و آخر حرف میم صورت ذیل کا (م) سفید کاغذ پر لکھ کر کسی کو بھڑی وغیرہ میں جہاں کوئی دوسرا شخص نہ جائے قبلہ رو لٹکا دے اور شروع ماہ کی نوچند ہی جمرات سے بعد نماز فجر عمل شروع کرے۔

طریقہ یہ ہے کہ بعد نماز فجر دو رکعت نماز حاجت پڑھے پھر اول و آخر کیس کیس مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اور درمیان میں ۸۰ مرتبہ ایہ لفظ کورہ بالا اس طرح سے پڑھے کہ نظر حرف میم کے سر میں جو درمیان سے خالی ہے رکھے۔ پڑھتے وقت نظر دوسری طرف نہ کرے۔ چالیس روز تک یہ عمل کرے۔ اور جو طریقہ عمل پڑھنے کا ہے اس پر پوری پابندی کرے۔ انشاء اللہ بعد ۴۰ روز کے کثرت مال سے مال مال ہو جائے گا۔

عمل برائے ترقی روزگار و مراتب

عروج ماہ میں نوچندی جمرات کو غسل کر کے پاک و صاف کپڑے پہن کر غسل کر گوشتہ تنہائی میں بیٹھ کر بعد نماز مغرب دو رکعت نماز حاجت پڑھیں۔ اس کے بعد اول و آخر سو سو مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اور درمیان میں موافق اعداد الحمد پڑھیں۔ جو کہ ہم آگے درج کریں گے یہ خیال رہے کہ اکیس روز تک وقت کی اور جگہ کی پابندی ضروری ہے۔ جگہ یا وقت میں فرق نہ ہو۔

اگر صحیح طریقے سے یہ عمل اخذ نظام کو پہنچایا تو پھر انشاء اللہ ضرور مراد پوری ہوگی۔ نہایت کامیاب عمل ہے۔ جو لوگ ادنیٰ عہدوں پر تھے وہ اس عمل کی بدولت اعلیٰ عہدوں پر پہنچ گئے۔ اعداد الحمد شریف کے حسب ذیل ہیں۔

ا ل ح م د ا ب ع ی ن

۱ ۳۰ ۸ ۴ ۵۴ ۲۰۰ ۲ ۷۰ ۱۰ ۵۰

ک و س ت ص ط ق ز غ س

۲۰ ۶ ۶۰ ۲۰۰ ۹۰ ۹ ۱۰۰ ۷۰۰ ۱۰۰۰ ۸۰۰

پہلے روز سورہ الحمد ایک مرتبہ دوسرے دن تیس مرتبہ

پوتھے دن آٹھ مرتبہ اسی طرح مذکورہ بالا چارٹ کے مطابق اکیس یوم تک پڑھے بعد اکیس یوم کے ہر روز بطور وظیفہ پینتیس مرتبہ ضرور پڑھتا رہے۔ تاکہ عمل قائم رہے۔ ورنہ باطل ہو جائے گا۔

کامیاب اور مجرب عمل برائے حصول

سازگار

اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ لِّجَنَّةِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ط

قرآن پاک کی آیت مذکورہ بالا کو عروج ماہ میں مشک و زعفران سے سفید کاغذ پر لکھ کر نپے دائیں بازو پر باندھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ فوراً ملازمت مل جائے گی۔ اور اگر مزدوری کرتا ہو تو عیب سے کام ملے گا۔

سخت مہم کیلئے مجرب عمل

آیت الکرسی کو کسی خاص مہم کے لئے اس طرح پڑھے کہ اول و آخر
گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر درمیان میں ستر بار آیت الکرسی
اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ سَعَى وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
تک پڑھے۔

انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہی روز میں مہم سر ہو جائے گی ورنہ تین
روز متواتر پڑھے۔ انشاء اللہ ضرور بالفرض مہم آسان ہوگی۔ بار بار
تجربہ کیا۔ مجرب پایا۔

آیت الکرسی کا کامیاب و مجرب عمل

آیت الکرسی بعد نماز عشاء نو سو نوے مرتبہ اول و آخر سو مرتبہ
درود شریف پاسبندی وقت و مقام و کل شرائط متعلق عمل خوانی
چالیس دن تک پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔

لتوہمات کے دروازے اس پر کٹا دہ ہوں گے۔ عزت و جاہ میں افزونی
ہوگی۔ دوست مہربان ہوں گے۔ دشمن مقہور ہوں گے۔ کثرت مال
امنال سے مال مال ہوگا۔ اگر محبت جائز کے لئے پڑھیں تو کامیابی
ہوگی۔ غرضکہ جملہ امور دنیوی کے مجرب ہے۔

نقشنے والے منافع کثیر ہونے کا نیا تجارت

جو شخص دکان یا تجارت میں کثیر منافع کا خواستگار ہو تو اسے چاہئے
کہ ذیل کی آیات مقدسہ کو بروز اتوار نیک ساعت میں ہرن کی کھال
پر لپیٹ کر کپڑہ میں لپیٹ کر مکان یا دکان میں دفن کرے۔ بہت
منافع حاصل ہو۔ اور خریدار بے تعداد اس کے پاس پہنچیں۔ آیات
مقدسہ درج ذیل ہیں۔

أَوْ كَمَا الَّذِي مَسَّرَ عَلَيَّ قَرِيْبِي وَهِيَ خَاوِيَةٌ
عَلَى فَرْوَشِيْمَا قَالَ أَلَيْسَ بِحَيِّ قَطْبِهَا اللَّهُ لَبَدًا
سَوِيْتَهَا فَاصَابَهُ اللَّهُ مَاتَتْ عَائِدَتُهُ لَبَعْتُهُ
أَل لَبْتَتْ يَوْمًا أَوْلَبَدًا يَوْمَ قَالَ كَمْ لَبْتَتْ يَوْمًا

أَوْ لَبِغْضٍ يُؤِيدُ قَالَ بَلْ لَبِغْتُ مَا تَبِهِ عَامِرًا نَظَرًا إِلَى
طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ تَيْبَسْ بِهِ وَانْظُرْ إِلَى
حَيَاتِكَ وَإِنَّ بَعْلَكَ آيَةٌ لِلنَّاسِ رَأَى نَظَرًا إِلَى
الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِرَتْ فَهَاتِهِ تَكْسُوفَهَا كَمَا طَفَلَمَا تَبَيَّنَ
لَهُ قَالَ أَعْلَهُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هـ

نماز بركے محبت

محبت بڑھانے اور تسخیر قلب کے لئے چاہئے کہ دو رکعت نماز

پڑھے

طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سات مرتبہ مندرجہ

ذیل آیت پڑھے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ
عَاوَنْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

بعد سلام کے سات بار یہ پڑھے

اللَّهُمَّ بَيْنَ قَلْبِ فَرْدِ بْنِ فَرْدِ مَا لَيْتَنِي
الْحَدِيدُ لِدَاؤِ رَعْلِيَةِ السَّلَامِ -

مذکورہ بالا طریقہ پر نماز سات روز پڑھنا سچا ہے۔ اور اگر مقصد
میں کامیابی نہ ہو تو مسلسل اکیس روز پڑھنا ضروری ہے۔ انشاء اللہ
تمام مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی۔ لیکن شرط جائز محبت کی ضروری
ہے۔ !!

حصہ طلسمات

طلسمات کا تعلق عملیات سے بالکل نہیں ہے۔ لیکن بہت سے

لوگوں کا خیال ہے طلسمات بھی کبھی عملیات کا ایک جزو ہے۔ ہم اس

سلسلے میں طویل بحث کرنا نہیں چاہتے حالانکہ بہت طویل بحث ہو

سکتی ہے۔ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اعتقاد بڑی چیز ہے۔ کیونکہ اعتقاد

سے ہی عملیات با اثر ثابت ہوتے ہیں۔ اگر اعتقاد نہ ہو تو بے اثر ثابت

ہوں گے۔ جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ان باتوں پر اعتقاد

رکھتے ہیں۔ مثلاً کسی کام کے لئے گھر سے باہر قدم نکالا گھر سے نکلنے

کے بعد پہلا شخص ملا اور اس نے چھینیک دیا۔ اب میرا کام نہیں ہوگا

اب اگر اپنے اوپر جبر کر کے اس کام کے لئے چلے بھی جائیں تو وہ کام ہرگز نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ تو چھنیک کو نہ مکر واپس گھر لوٹ آتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ان تک لکھے جائیں۔ حالانکہ یہ قطعی غلط ہے۔ صرت اعتقاد کی وجہ سے ہی لوگوں کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ان احباب کی خوشنودی مزاج کے حیند مخصوص اور قابل قیاس طاسمات درج دیل کرتے ہیں۔ جن میں بعض طلسم میرے تجربہ میں بھی آئے ہیں۔ اور بعض دیگر اشخاص کے تجربہ کی بنا پر درج ذیل ہیں۔

طلسم نمبر ۱۱

برائے محبت اور خواب بندی یہ طلسم بہت کامیاب ہے۔ خواتین خشک ایک عدد۔ خون ہد ہد کالے کر خواتین کو اس میں مخلوط کر لیں اور نلیتہ تیار کریں نصف شب کو چراغ میں روشن کریں اسی وقت مطلوب حاضر ہو جائے گا۔ یہ طلسم تجربہ میں آیا ہوا ہے۔

طلسم نمبر ۲

اگر کسی عورت کے دل کا راز معلوم کرنا ہو تو نیڈک کی زبان

اور کتاں کے کپڑے میں لپیٹ کر جس عورت سے راز معلوم کرنا ہے اس کے سینے پر رات کو سوتے ہیں رکھ دے۔ جو کچھ اس نے اس دن کہا وہ گا وہ سب کچھ با آواز بلند بتا دے گی۔ راز معلوم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔

طلسم نمبر ۳

درالعیہ طلسم اگر کسی کو اپنا گردیدہ اور عاشق زار بنانا چاہے تو وہ اوار کے مرگھٹ (جہاں اہل ہنود کے مردے جلائے جاتے ہیں) سے ٹوٹی سیاہی خاک لائے اور لعاب دہن (مخفوک) اور آب منی تینیوں کو ایک کر کے محفوظ رکھ لے۔ جس کو چاہے کہ یہ میرے اوپر عاشق ہو جائے اس کے دامن پر ذرہ برابر مل دے۔ پس وہ فریفتہ ہو جائے گا۔

طلسم نمبر ۴

یہ طلسم کبھی مذکورہ بالا طلسم کی طرح کام کرتا ہے ترکیب اس کی ہے کہ مخفوی سیاہی خاک چوراہے کی وہ ہد کاتاج اور سور کا پٹا ان دونوں کو آب منی کے ساتھ ایک جا کرے اور محفوظ رکھ لے جس

عورت پر ایک قطرہ ٹپکا دے یا دامن سے مل دے۔ وہی عاشق
نسرلیفتہ ہو جاوے۔ اور پیچھے پیچھے پھرے۔

طلسم نمبر ۵

جو شخص چاہے کہ وہ ہر شخص کی نظروں میں معزز و مکرم ہو
اس کی حاجت برائے تو وہ خرگوش کا دہرہ روغن زرد میں ملا کر جو
کرے۔ اور اس روغن کو تھوڑا سا اپنے چہرہ پر مل کر اس شخص
کے سامنے جائے جس سے کہ مطلب و البتہ ہو۔ فوراً مطلب پورا
ہوگا۔ اور جس کسی کے سامنے جائے معزز و مکرم ہووے۔

طلسم نمبر ۶

جو شخص درمیان دو فریقین کے جن میں آپس میں بہت ہی
و محبت ہو عداوت کرانا چاہے تو اس شخص کا استعمالی کپڑا جس
کے درمیان عداوت کرانا مقصود ہے لے کر آلو کے خون میں اس
تر کر لے اور اتوار کے روز اس کپڑے کو جلا کر رکھ اس کی محفوظ
رکھے۔ اور بروز جمعہ اس شخص کے سر پر تھوڑی سی رکھ ڈالے جس
کا استعمالی کپڑا یہ ہے بس ان دونوں شخصوں کے درمیان ایسا

عداوت ہو جائے کہ قیامت تک صلح کا امکان نہیں۔

طلسم نمبر ۷

محبت کیلئے بہترین طلسم۔ جو شخص محبت کا خواستگار ہو تو اس
کو چاہئے کہ ایک کھنڈر سیاہ لے جس پر کوئی سفید داغ نہ ہو وے
اور سرسہ کے ہمراہ ایک جاہ پیس لے اور حویض کے کپڑے میں لپیٹ کر
البتہ بنا دے اور چراغ روشن کر کے کاجل پارے اور اس پر لگا
دے اور آنکھ میں کھینچے جو کوئی اس شخص کو دیکھے گا۔ وہ اس پر عاشق
ہو جائے گا۔

طلسم نمبر ۸

برائے طلسم محبت استعمال کیا جاتا ہے۔ اور با اثر ثابت ہوتا ہے
کیا اس کی یہ ہے کہ ایک لکڑی بیداجیز کی لے اور اس لکڑی سے کتیا
کو مارے اس کے بعد اس لکڑی کو جلا دے اور اس کی راکھ کے غلے بنا
ہیں کسی کے اس غلے کو مار دے گا۔ وہ مثل کتیا کے اس کے پیچھے پیچھے
پہرے گا۔!

طلسم نمبر ۹

زبان سب دی کے لئے یہ طلسم چند مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے۔
کام کرتا ہے۔ مجرب ہے۔

طریقہ اس کا یہ ہے کہ کھال اور آنکھ اٹوکی لائے اور ان دونوں کو مثل تلويز کے بنا کر اپنے دائے بازو پر باندھ کر کسی ظالم حاکم کے سامنے جائے۔ وہ ہرگز ظلم و تشدد نہ کرے گا مہربانی سے پیش آئے گا۔ اگر اس کو ہر وقت بندھا رہے تو جو بھی اس کو دیکھے گا یا ملاقات کرے گا نہایت مہربانی سے پیش آئے گا۔

طلسم نمبر ۱۰

برائے حب یہ آسان طلسم بہت مجرب ہے۔ بہت سے استیصال کا تجربہ کیا ہوا ہے۔

طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک کو اچھڑے اور اس کی زبان نکال کر خشک کر کے پیس لے اور حفاظت سے رکھے جس عورت کو اپنے عشق میں گرفتار کرنا چاہے اس کو ذرا سی کسی بھی شے میں ملا کر کھلا دے وہ فوراً اس پر عاشق ہو جائے گی۔

طلسم نمبر ۱۱

جو شخص یہ چاہے کہ اپنے گھر میں یا کسی دوسرے شخص کے مکان میں جو آدمی سو رہے ہوں وہ سوتے ہی رہیں تو وہ اس طلسم کو لائیں۔

طریقہ یہ ہے کہ یہ دھیان رکھے کہ منگل کے روز جو شخص مرے گا اس سے ایک ٹکڑی لے اور جس گھر کے آدمی سوتے ہوں اس گھر کی دروازے سے لائی گئی ہے۔ جو اشخاص سو رہے ہیں اسی سوتے رہیں گے۔ چاہے آپ کتنا ہی شور و غل کیوں نہ کریں۔ اس مطلق خبر نہ ہوگی۔

طلسم نمبر ۱۲

جس شخص کو ہر روز اختتام ہوتا ہو۔ باوجود علاج کرنے کے اختتام کی شکایت نہ جاتی ہو تو اس کو یہ طلسم کام میں لانا چاہئے۔ طریقہ یہ ہے کہ اتوار کے دن درخت اکھ کی جڑ جس کا سایہ پرنے پڑا ہو۔ یعنی دھوپ نکلنے سے پہلے صبح اکھاڑے اور اس کا ازار بند بنائے۔ اگر ازار بن نہ سکے تو جوار بند بنائی کر رہا ہو اسی میں اس جڑ کو باندھے جب تک یہ ازار بند اس

کی کمر سے سنبھارے گا۔ اختتام ہرگز ہرگز نہ ہوگا۔ مجرب ہے۔

طلسم نمبر ۱۳

یہ طلسم بھی اختتام کے مرہینوں کے لئے زود اثر اور کامیاب ہے۔ عمل میں لا کر تجربہ کریں۔
طریقہ یہ ہے کہ۔ بھنگرہ جو کہ کسی قبر پر اُکا ہو اس کو اتوار کے دن اکھاڑ لے اور اس کو ازار سنبھ میں باندھ لے۔ جب تک ازار کمر سے سنبھارے گا۔ اختتام نہ ہوگا۔

طلسم نمبر ۱۴

یہ تیسرا عمل بھی اختتام کے مرہینوں کے لئے پیام مسرت لاتا ہے۔ مجرب ہے۔
طریقہ یہ ہے کہ باکھر کی دم کے بال لے کر اور ان کو بٹ کر ازار بنائے اور ماہ شوال میں اس کو پا جائے میں ڈال کر استعمال کرے۔ اختتام ہرگز نہیں ہوگا۔

طلسم نمبر ۱۵

یہ طلسم بدکارہ عورتوں کو باندھنے کے لئے تو خیر اثرات رکھتا ہے۔

یہ ہے کہ۔ کافر ایک دام۔ شلغم کے بیج کے دانے چھ عدد ان دونوں سیا کو یکجا باریک پیس کر قضب پر طلا کریں اور بعد خشک ہونے اور رہنے پر بدکارہ عورت سے ہم بستر ہوں۔ عورت بدکارہ سے ہٹائے گی۔

طلسم نمبر ۱۶

مرد لپتے کے کٹادہ کرنے کے لئے یہ طلسم بہت کامیاب ہے۔ تجربہ میں آیا ہوا ہے۔
طریقہ یہ ہے کہ۔ یکتا بنس اور بیج بھنگرہ دونوں کو لے کر کڑوں میں ملا کر قضب پر مالش کریں۔ ثوری کامیابی حاصل ہوگی۔

طلسم نمبر ۱۷

جو شخص کوئے کو پکڑنا چاہے تو وہ اس طلسم کو کام میں لائے۔ طریقہ یہ ہے کہ شورہ قلمی کسی بھی غذا کے ذریعہ کوئے کو کھلا جائے۔ چند سیکنڈ میں کوئے ہوش ہو جائے گا۔ آسانی سے

طلسم نمبر ۱۸

جو شخص چاہے کہ برہنہ لوگ دیکھنے کو ملیں تو وہ

شخص اس طلسم کے ذریعہ سب کو برہنہ دیکھ سکتا ہے۔
طریقہ اس کا یہ ہے کہ خرائین کو باریک پس کر سرنج مصفا کی
میں پیسٹ کر فلیتہ کرے۔ اور چراغ جلا دے۔ جو کوئی اس چراغ کی رو
میں آئے گا وہ بالکل برہنہ نظر آئے گا۔

جملہ حقوق طبع محفوظ ہیں
طلسمات و تعویذ اول نسخہ جا کی مجرب کتاب

طلسم بنکارہ

والسبحان
الکبر

(حقہ اول)

پبلشر

طکینہ کتب خانہ ہاری باولی دہلی
پبلشر
پتہ
(روڈ پرنٹنگ ورکس دہلی)

||| احتم شد |||

MADSHAHAB